



آنکھ شدہ

صحابہ کرام کا عشقِ رسول



- علاماتِ محبت
- شوق دیدار
- حضرت ابو بکرؓ کا عشق
- حضرت خبابؓ کی جلی ہوئی پیشہ
- عشق و وفا کا عجیب منظر
- حضرت فاروق اعظمؓ کا فیصلہ
- غسل الملائکہ
- شوق شہادت
- رسول اللہ ﷺ صاحبہ کرامؓ کی نظر میں

مکتبۃ الرسینہ
(میراث اسلامی)
SC1286



صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عشقِ رسول کے واقعات پر مشتمل تالیف

رضی اللہ تعالیٰ عنہم

صحابہ کرام کا عشقِ رسول

مؤلف

مولانا محمد اکرم رضوی

پیش کش

مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوت اسلامی)

(شعبۃ تحریج)

ناشر

مکتبۃ المدینۃ باب المدینۃ کراچی

مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعاۃ)

باقع

مدینہ

مکہ

صحابہ کرام ﷺ کا عشق رسول اللہ
الصلوٰۃ والسلام علیک بار رسول اللہ دعیٰ اللہ واصحابک با حبیب اللہ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہے

صحابہ رضی اللہ عنہم کا عشق رسول ﷺ

مولانا محمد اکرم رضوی

مجلس المدینۃ العلمیۃ (شعبہ تحریج)

ذوالحجہ ۱۴۲۷ھ، دسمبر 2006ء

مکتبۃ المدینۃ باب المدینۃ کراچی

مکتبۃ المدینۃ شہید مسجد کھارا در کراچی

مکتبۃ المدینۃ دربار مارکیٹ گنج بخش روڈ، لاہور

مکتبۃ المدینۃ اصغر مال روڈ نزد عیدگاہ، راولپنڈی

مکتبۃ المدینۃ امین پور بازار، سردار آباد (فیصل آباد)

مکتبۃ المدینۃ نزد پیشل والی مسجد اندر وون بوڑھیک، ملتان

مکتبۃ المدینۃ چھوکی گھٹی، حیدر آباد

مکتبۃ المدینۃ نورانی مسجد، بر ماہول، سریاب روڈ کوئٹہ

مکتبۃ المدینۃ فیضانِ مدینہ لگبرگ نمبر 1، النور اسٹریٹ، صدر پشاور

مکتبۃ المدینۃ چوک شہید ایاں میر پور آزاد کشمیر

E.mail:ilmia26@yahoo.com

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلٰامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
آمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ط

المدینۃ العلمیۃ

از بانی دعوتِ اسلامی، عاشقِ اعلیٰ حضرت، شیخ طریقت، امیرِ اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابو بلاں محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ الحمد للہ علی احسانہ و بفضل رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ”دعوتِ اسلامی“ بنیکی کی دعوت، احیائے سنت اور اشاعتِ علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزم مقصّم رکھتی ہے، ان تمام امور کو حسن خوبی سرانجام دینے کے لئے مسعودہ مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن میں سے ایک مجلس ”المدینۃ العلمیۃ“ بھی ہے جو دعوتِ اسلامی کے علماء و مفتیانِ کرام کفرہم اللہ تعالیٰ پر مشتمل ہے، جس نے خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

- (۱) شعبۃ کتب اعلیٰ حضرت
- (۲) شعبۃ درسی کتب
- (۳) شعبۃ اصلاحی کتب
- (۴) شعبۃ ترجمہ کتب
- (۵) شعبۃ تحریث

”المدینۃ العلمیۃ“ کی اولین ترجیح سرکارِ اعلیٰ حضرت امام

اہلسنت، عظیم البر کرت، عظیم المرتبت، پروانۃ شمع رسالت، مُجددِ دین و مملت، حامی

سنت، مائی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعثِ خیر و برکت، حضرت علامہ مولیانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کی گرال مایہ تصانیف کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق حتی الْوَسْع سُہلِ اُسلوب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بھینیں اس علمی، تحقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی تُشب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔

اللہ عزوجل "دعوتِ اسلامی" کی تمام مجالس شُمول "المدینۃ العلّمیۃ" کو دون گیارہویں اور رات بارہویں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل خیر کو زیور اخلاق سے آراستہ فرمائے دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیر گنبد خضرا شہادت، جنتِ البقیع میں مدفن اور جنتِ الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔

آمین بجاه النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ

پیش لفظ

ہر نبی اور رسول علیہ اصلوۃ والسلام کے جان شاروں اور حواریوں نے اپنی محبت و وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری میں کوئی دیقیقتہ فروگزراشت نہ چھوڑا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ رسول اکرم، نبی مختار م، سرورد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والو سلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے والہانہ عشق و محبت سے سرشار ہو کر جس شاندار انداز میں اپنے آقا مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والو سلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا اس کی نظری نہیں مل سکتی۔

جنگ بدر کے موقع پر حضور اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والو سلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مشورہ فرمایا اور لشکر کفار کے مقابلے میں جنگ و قتال کے متعلق ان کی رائے طلب فرمائی تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ والو سلم خدا کی قسم آپ ہمیں عدن تک لیجائیں گے تو ہم انصار میں سے کوئی ایک شخص بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والو سلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔

حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والو سلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں ہم بھی بھی وہ بات اپنے منہ سے نہ کالیں گے جو نبی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ

فَإِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا
ترجمہ: کنز الایمان: تو آپ جائیے اور آپ هُنَّا قَعِدُونَ (۲۶، المائدہ: ۴)

کارب تم دونوں اڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔

قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والو سلم کو حق کے ساتھ بھیجا

6

صحابہ کرام ﷺ کا عشق رسول ﷺ

هم آپ کے ساتھ جائیں گے اور جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ مل کر مردانہ وارثیں گے۔ (مدارج النبوت، قسم سوم، باب دوم، مذکور ہنگ بدر، ج ۲، ص ۸۳)

عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں کی وہڑکن بن چکا تھا اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی محبت و غلامی میں اتنے منہمک اور مستغرق ہو چکے تھے کہ انہیں دنیا کی کسی چیز اور کسی نسبت سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے لیکن انہیں کبھی یہ گوارانہ تھا کہ کوئی ان کے دلوں کے چین، رحمت کو نین صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی شان اقدس میں ادنیٰ سی بے ادبی کی جرأت کرے چنانچہ عروہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) کہتے ہیں کہ جب قریش نے انھیں (ایمان لانے سے پہلے) صلح حدیبیہ کے سال، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، انہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بے پناہ تعظیم دیکھی، انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جب بھی وضوفرماتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان وضو کا پانی حاصل کرنے کے لئے بے حد کوشش کرتے تھی کہ قریب تھا کہ وضو کا پانی نہ ملنے کے سبب لڑپڑیں۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم وہن مبارک یا بینی مبارک کا پانی ڈالتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اسے ہاتھوں میں لیتے، اپنے چہرے اور جسم پر ملتے اور آبرو پاتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا کوئی بال جسد اطہر سے جدا نہیں ہوتا تھا مگر اس کے حصول کے لئے جلدی کرتے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم انھیں کوئی حکم دیتے تو فوراً تعمیل کرتے اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے سامنے خاموش رہتے اور ازراہ تعظیم آپ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی طرف آنکھا اٹھا کرنے دیکھتے۔ (الشفاء، الباب الثالث، ج ۲، ص ۶۹)

جب عروہ بن مسعود مشرکوں کے گروہ میں واپس گئے تو انہیں کہا کہ اے گروہ
قریش میں بڑے بڑے متنکر و مغور سلاطین و بادشاہوں کی مجلسوں میں رہا ہوں اور ان
کی صحبتیں اٹھائی ہیں۔ میں قیصر و کسری اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں اور رہا ہوں
لیکن میں نے ان میں سے کسی بھی بادشاہ کے کسی بھی خدمت گار کو ایسا ادب و احترام
کرتے نہیں دیکھا جیسا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے اصحاب ان کا ادب و احترام کرتے
ہیں۔ جب وہ اپنے دہن مبارک سے لاعاب شریف نکلتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم
اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے رخساروں پر ملتے ہیں، جب کسی ادنیٰ اور معمولی کام
کا حکم دیتے ہیں تو اس کی تعلیل کے لیے بزرگ ترین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی سبقت کرتے
ہیں، جب ان کے حضور کوئی بات کرتا ہے تو وہ آواز کو پست کر کے بات کرتا ہے اور جب
وہ گفتگو فرماتے ہیں تو تمام لوگ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سنتے ہیں اور زنگاہ ملا کربات
نہیں کرتے، ان کے روئے مبارک پر کوئی زنگاہ نہیں جما سکتا، جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی
زمیں پر نہیں گرتا بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم لپک لپک کر اسے بھی اپنے ہاتھوں پر لے لیتے
ہیں، جب دار الحکمی شریف میں اور سراقدس میں لکھنگی فرماتے ہیں اور کوئی موئے مبارک جسم
شریف سے الگ ہوتا ہے تو اس بال شریف کو عزت و احترام کے ساتھ تبرک جان کر لے لیتے
ہیں اور اس تبرک کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے۔

عروہ بن مسعود نے مذکورہ بالا باتیں کہنے کے بعد قوم قریش کے سامنے صحابہ
کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شجاعت، مردانگی، یک جہتی، جذبہ جہاد، شوق شہادت، آپس

میں ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و محبت کا جذبہ وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی قسم! میں نے ایسا شکر دیکھا ہے جو تم سے کبھی منہ نہ موڑے گا میدان جنگ میں یہ تم سب کو مارڈا لیں گے اور تم پر غالب آجائیں گے۔

(مدارج النبوت، قسم سوم، باب ششم، ج ۲، ص ۲۰، ملخصاً)

ان واقعات سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ صادق عیاں ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے قلبی لگاؤ اور والہانہ عشق کے آداب کی تکمیل میں ایثار و قربانی کی جو مثالیں پیش کیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، آج بھی اگر ہم ان کی پیروی کریں تو سینوں میں عشق رسول کی شمع فروزاں ہو سکتی ہے۔ اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لا زوال دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین!

زیر نظر کتاب ”صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عشق رسول“ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسوہ حسنہ کے وہ درخشش و واقعات پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عزت مآب میں حاضری کا طریقہ، ان کی بارگاہ کا ادب، فرماں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بجا آوری میں پیش قدی اور جان ثاری کی حسین و دلکش ادائیں بیان کی گئی ہیں اور آخر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بارگاہ رسالت میں ”خارج عقیدت“ پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح بیان فرمائی ہے۔

انہیں خوبیوں کے پیش نظر ”مجلس المدینۃ العلمیۃ“ نے عشق رسول صلی

اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے موضوع پر اس کتاب کا انتخاب کیا اور طباعت جدیدہ کے لئے ان امور کا اہتمام کیا؛ ☆ کتاب کی نئی کپوزنگ ☆ مکرر پروف ریڈنگ ☆ دیگر نسخوں سے مقابلہ ☆ حوالہ جات کی تحریق ☆ عربی و فارسی عبارات کی درستگی ☆ پیرابندی ☆ آیات کا ترجمہ کنز الایمان کے مطابق اور آخر میں مأخذ و مراجع کی فہرست بھی شامل کی گئی ہے۔

ان تمام امور کو ممکن بنانے کے لیے ”مجلس المدینۃ العلمیۃ“ کے مددی علاماء نے بڑی محنت لگن سے کام کیا اور حتیٰ المقدور اس کتاب کو احسن انداز میں پیش کرنے کی سعی کی۔ اللہ عز وجل ان کی یہ محنت اور سعی قبول فرمائے، انہیں جزاً جزیل عطا فرمائے اور اخلاص و استقامت کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے

آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم

شعبۂ تخریج (مجلس المدینۃ العلمیۃ)

فہرست

نمبر شار	عنوان	صفحہ نمبر
1	پیش لفظ	5
2	کلمہ آغاز	16
3	مقدمہ	22
4	تعظیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والوَسَلَمُ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم	27
	تعظیم و ادب	42
5	علامات مجتب	43
6	تعظیم	43
7	نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والوَسَلَمُ کی بے ادبی کفر ہے	45
8	امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو جعفر منصور سے مکالمہ	46
9	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تعظیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والوَسَلَمُ	47
10	تاجیین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والوَسَلَمُ	50
11	واقعات تعظیم	51
12	بے نظری ضیافت	53
13	شاہ کار تعظیم	54
14	ادب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والوَسَلَمُ	56
15	عزت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والوَسَلَمُ کے لیے مرثٹنے کا جذبہ	57
16	گستاخی کی سزا	58
17	تعظیم ارشاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والوَسَلَمُ	60

67	شوق موافق	18
67	تعظیم تبرکات	19
67	مہربنوت چوملی	20
69	موئے مبارک	21
69	لعاں مبارک	22
70	پسینہ مبارک	23
71	ادب و برکت اندازی	24
72	مسح دست کا کمال	25
72	قطعہ پیرا ہن کی تاشیر	26
73	عصائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات	27
75	عشق و محبت	
67	لَا يُؤْمِنُ أَحَدُ كُمْ	28
81	رضاۓ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جذبہ ایثار	29
82	حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جاں شاری	30
83	حضور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا قابل دیدنہ رہی	31
83	اضطراب عشق	32
84	اللہ عزوجل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم	33
87	حضرت زاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ	34
88	حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم	35
91	حضرت ابوکبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم	36

92

شوق رفاقت

37

93

اللہ اور رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والوَسْلَمُ کی محبت

38

95

شوق دیدار

39

97

محبت اور فدائیت

40

103

حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور فدائیت

41

106

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عشق ووفا کی امتحان گاہ میں

42

106

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال

43

109

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اسلام

44

112

حضرت عمار اور ان کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم

45

113

حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام

46

115

حضرت عمر کے بہنوئی اور بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہم

47

117

حضرت زینب بنت رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والوَسْلَمُ کی بحیرت اور وفات

48

119

حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلی ہوئی پیٹھ

49

120

حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے کوئلوں پر

50

120

بحیرت جبše اور شعبابی طالب

51

125

حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زن و فرزند

52

127

عشق ووفا کا عجیب منظر

53

131

حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختہ دار پر

54

132

حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسالت

55

134

سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والوَسْلَمُ کے کمسن جاں باز

56

137

مجاہدانہ جواب

57

138	حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک کہانی	58
145	فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ	59
146	شمشیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماموں کا سر	60
147	بیٹے کی تلوار باب پاک	61
149	بابا پاک بستر پاک	62
150	معز کے احمد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جاں نثاری	63
150	حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ	64
151	غسل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ	65
152	شوہ شہادت	66
153	قدم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والوہ وسلم پر شہادت	67
153	اسی خزم	68
154	حضرت وہب بن قابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ	69
155	حضرت ام عمارة رضی اللہ تعالیٰ عنہا	70
157	پیام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ	71
157	حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق و وارقی	72
160	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والوہ وسلم	73
160	برکت اندوزی	74
163	حافظت یادگار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والوہ وسلم	75
169	ادب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والوہ وسلم	76
179	جاں نثاری	77
186	خدمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والوہ وسلم	78

190	محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	79
199	قرابت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و محبت	80
203	رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و محبت	81
205	شوق زیارت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	82
207	شوق دیدار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	83
208	شوق محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	84
209	رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا اثر	85
211	استقبال رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	86
213	ضیافتِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	87
216	نعتِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	88
217	رضاۓ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	89
222	غم بھرِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	90
224	تفویض الی الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	91
225	بیتِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	92
227	اطاعتِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	93
229	پابندیِ احکامِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	94
234	ادبِ حرمِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	95
236	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا صحابہ علیہم الرضوان پورہ عمل	
236	حالت تحریر	96
236	انکشاف حقیقت	97
237	غم والم کے بادلوں کا چھاجانا	98

240	فرقِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والوَسْلَم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات	99
245	غمِ بَحْرٍ	100
248	روضۃ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والوَسْلَم پر	101
248	رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والوَسْلَم صاحبِ رضی اللہ عنہم کی نظر میں	102
253	بارگاہ رسالت میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا خراج عقیدت	
253	حضرت ابوکبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ	103
253	حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ	104
254	حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ	105
255	حضرت علی کرم اللہ وجہ اکرم	106
255	حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ	107
256	حضرت حسان بن ثابت النصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ	108
259	حضرت عبد اللہ بن رواحة رضی اللہ تعالیٰ عنہ	109
260	حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ	110
260	حضرت عباس بن مردا س رضی اللہ تعالیٰ عنہ	111
261	حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ	112
261	حضرت ابوسفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ	113
262	اعربی	114
263	حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا	115
263	حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا	116
264	حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا	117
264	بنات مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن	118

کلمہ آغاز

باسمہ و حمدہ والصلوٰۃ والسلام علی نبیہ و جنودہ

ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست

بھروسہ درگوشہ دامان اوست

عشق کی تاثیر بڑی حرمت انگیز ہے۔ عشق نے بڑی بڑی مشکلات میں عقل انسانی کی رہنمائی کی ہے۔ عشق نے بہت سی لا علاج بیماریوں کا کامیاب علاج کیا ہے۔ عشق کے کارنا مے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔

مذینہ کے پرآشوب ماحول میں جب کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ اطراف مدینہ کے بہت سے لوگ دین اسلام سے پھر گئے۔ دشمنوں نے شہر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملے کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ اسلامی لشکر کو حضرت امام زین الدین عزیز کی سرکردگی میں روم کے مقابلہ پر خود رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض وفات میں بھیج چکے تھے۔ سیاسی حالات نے تنگین رخ اختیار کر لیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی رائے تھی کہ لشکر کو واپس بلا لیا جائے۔ لیکن وہ عشق ہی تھا جس نے سب کے برخلاف پکار کر کہا قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبد نہیں، ابو تقافہ کے بیٹے (ابو بکر) سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس لشکر کو پیچھے لوٹانے جسے اللہ عزوجل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بھیجا ہے۔ خواہ کتے ہماری ٹانگیں کھینچ لے جائیں مگر رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باندھا ہوا پرچم کھول نہیں سکتا۔

عشق کا فیصلہ عقل کے فیصلے سے بالکل متصادم تھا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ جب

عشق کا فیصلہ نافذ ہو گیا تو ساری سازشیں خود بخود م تم تور گئیں۔ دشمنوں کے حوصلے شکست خور دہ ہو گئے اور سیاسی حالات کی کایا پلٹ گئی۔

مرجا اے عشق خوش سودائے ما

اے دوائے جملہ علیہماۓ ما

عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر پورے طور پر دل میں جا گزیں ہو تو اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ناگزیر بن جاتا ہے۔ احکام الہی کی تعلیم اور سیرت نبوی کی پیروی عاشق کے رگ و ریشه میں سما جاتی ہے۔ دل و دماغ اور جسم و روح پر کتاب و سنت کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ مسلمان کی معاشرت سنور جاتی ہے۔ آخرت نکھرتی ہے، تہذیب و ثقافت کے جلوے بکھرتے ہیں اور بے ما یہ انسان میں وہ قوت رونما ہوتی ہے جس سے جہاں بینی و جہاں بانی کے جو ہر گھلتے ہیں۔

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

اسی عشق کامل کے طفیل صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دنیا میں اختیار و اقتدار اور آخرت میں عزت و دوقار ملا۔ یہ انکے عشق کا کمال تھا کہ مشکل سے مشکل گھڑی، اور کھن سے کھن وقت میں بھی انہیں اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اخراج گوارانہ تھا۔ وہ ہر مرحلہ میں اپنے محبوب آقا علیہ التحیۃ والثنا کا نقش پاڑھونڈتے اور اسی کوشش راہ بنا کر جادہ پیکارتے۔ یہاں تک کہ

لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے

اندھیری رات سن تھی چراغ لے کے چلے (حدائق بخشش)

صحابہ سے تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے یہ کراں بہادولت حاصل کی۔ انہوں نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی رفاقت و صحبت میں رہ کر عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیکھا، دل میں بسایا، سیرت میں اتارا، رزم و بزم میں نکھرا، اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوارا۔

اج عشق کی یہ لومہ ہم ہوتی جا رہی ہے اور نئی نسل جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بجائے کہیں اور دل لگائے پڑھی ہے، جیسے اسے خبر ہی نہ ہو کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا مرکز عشق و عقیدت کہاں ہے۔ عقل بے ما یہ، علم بے عمل، جہل بے شر اور لہو بے ہنرنے ہمارا کارروان ظفر تاریخ کر رکھا ہے۔ اور اپنی بے بسی و بے کسی کا حل بھی نظر نہیں آتا۔

ضرورت ہے کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہم کی محفل میں چلیں، فتح و ظفر جن کے قدم چوتھی تھی، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی متاع زندگی، اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا سرمایہ حیات، اور جہاں بانی جنکی تقدیر بن چکی تھی۔ ہم انہیں دیکھیں کہ ذات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا کیسا والہانہ تعلق تھا۔ انکی بارگاہ میں پہنچ کر ان سے درس محبت حاصل کریں۔

مگر اب وہ مخلفین، وہ رفاقتیں، وہ سعادتیں کہاں نصیب؟ وہ بے بہادولت وہ جہاں آ راحبخت، وہ حشر بد اماں شر ارشاد ہماری خاکستر میں آئے تو کیوں کر آئے؟

میں کہتا ہوں ہم اپنی نگاہ بصیرت تیز کریں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے واقعات میں انکی چلتی پھرتی زندگی دیکھیں، بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں انکی مقدس و باعظمت اداوں کا مشاہدہ کریں۔ چشم تصور سے لوح دل پر انکے پاکیزہ عشق کا نقشہ اتاریں۔ اس طرح گویا ہم بھی صحابہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی محفل

میں ہوں گے اور ان کا فیضانِ عشق کچھ ہمارے اوپر بھی جلوہ بار ہو گا۔ ”صحابی
کالنجوم فایہم اقتدیتم اهتدیتم“ (کشف الخفاء، الحدیث، ۳۸۱، ج ۱، ص ۱۱۸) یعنی
میرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو
گے ہدایت پاجاؤ گے، کامزدہ جانفزا ہماری خاکستر میں بھی کچھ شعلے فروزان کرے
گا۔ عشق اور عشق کی حیرت انگیز تاثیر ہمارے قافلہ حیات کو بھی علم وہنر، جہد و عمل اور
فلح و ظفر سے آشنا کرے گی۔

نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشت و پرال سے
ذرانم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی

یہی تخلیل اس کتاب کی ترتیب کا محرك بنا۔ موجودہ نسل کے سینے میں عشق رسول
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت منتقل کرنے کیلئے قلم نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے مقدس صحابہ علیہم الرضوان کی محفل سجائی۔ ان کی رفاقتیں اور صحبتیں کے تابندہ نقوش
ڈھونڈے اور اپنی دور افتادہ نسل کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صحبت کا یک گونہ حظ اٹھانے
کی راہ پیدا کی، بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی محبت و
福德ائیت اور احترام و عقیدت کے معابر و افات کا ایک شاندار گلدستہ تیار کیا اور اس توقع
کے ساتھ مسلمانان عالم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ وہ اپنی شوکت رفتہ کو، اس دولت
گم گشته یا کم گشته کی فراوانی و افزوں کے ذریعے تلاش کریں۔ ان کا حال و مال
درخشنده و تباک ضرور ہو گا۔

بِمُصْطَفَى بِرْ سَارِ خَوْلِشْ رَاكَهْ دِيْهْ هَمْ اوْسْت
 وَ گَرْ بَانْ نَرْ سِيدِي تَامْ بُونِي سَت
 نَظَرْ هُوْ خَوْا جَهْ كَوْنْ وَ مَكَانْ پُرْ گَرْ شَارَابْ بَھِي
 توْ هُوكَتْيْ هَيْ نَازِلْ رَحْمَتْ پُورْ دَگَارَابْ بَھِي
 فَضَاءَ بَدَرْ پِيدَا كَرْ فَرْ شَتَهْ تَيْرِي نَصْرَتْ كَوْ
 اَتْرَسْكَتْيْ ہِيْ زَمِينْ پُرْ قَطَارِ انْدَرْ قَطَارِابْ بَھِي

اسِ مُجَمُوعَه میں مُخْتَلَف کتابوں سے زیادہ تر حالات و واقعات کے نقل و اقتباس پر
 اکتفا کیا گیا ہے اور بالعموم اپنی طرف سے کسی تبصرہ کی حاجت محسوس نہ کی گئی کہ صحابہ
 کرام علیہم الرضوان کی زندگی کے حسین نقوش اثر آفرینی و کردار سازی کے لئے خود ہی
 کافی ہیں۔

بڑی ناسیپا سی ہو گی اگر اس موقع پر اپنے ان احباب کا تذکرہ نہ کروں جن کا کرم
 مواد کی فراہمی، کتاب کی ترتیب، مسودہ پر نظر ثانی، مقدمہ کی نگارش، پھر کتابت و تصحیح
 اور طباعت و اشاعت کے تمام مراحل میں میرے ہدم و غمگسار ثابت ہوئے۔ اور انکی
 عنایتوں کے طفیل یہ کتاب جلد آپ کے ہاتھوں میں پہنچ سکی۔

ان احباب سے میری مراد ہے: مولانا افتخار احمد قادری، مولانا یسین اختر
 اعظمی، مولانا محمد احمد مصباحی، مولانا عبدالمیین نعمانی، مولانا ناصر اللہ درضوی، جزاہم اللہ
 احسن الجزاء و خصّهم بعظيم نعمه و جلیل کرمہ فی الدین و الدینیا و الآخرة۔
 یہ دعوی نہیں کہ زیر نظر کتاب اس موضوع پر حرف آخر ہے بلکہ ابھی اضافہ کی بہت

گنجائش باقی ہے۔ لیکن قوی امید ہے کہ جس نیک جذبہ اور اہم مقصد کے پیش نظریہ مجموعہ معرض وجود میں آیا ہے وہ ان شاء اللہ المولی القدیر بڑی حد تک اس سے حاصل ہو گا۔ رب کریم مسلمانوں کے سینے عشق رسول کے بھرپور اس سے بھر دے اور انھیں اتباع حبیب و اتابع فدائیں حبیب سے دونوں جہاں میں سرفرازی و سرخروئی نصیب کرے۔ انھیں جیسے اور مر نے کا سلیقہ عطا کرے اور غیروں کے بجائے رسول اکرم رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کی بارگاہ امت نواز سے ہر لمحہ و ہر آن وابستہ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں
دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں
جان ہے عشق مصطفے روز فزوں کرے خدا
جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں
سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے
جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں

محمد اکرم رضوی

جمعہ یکم جمادی الآخرہ ۱۴۰۵ھ ۲۲ فروری ۱۹۸۵ء

مُقْتَلَمَةٌ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى الَّهِ وَصَحَابَهُ اجْمَعِينَ

محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے
اسی میں ہوا گرخانی تو سب کچھ نا مکمل ہے
محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی
خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی

قرآن ناطق ہے:

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اگر تمھارے
باپ اور تمھارے بیٹے اور تمھارے بھائی
اور تمہاری عورتیں اور تمھارا کنبہ اور تمھاری
کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان
کا تعمیل ڈر ہے، اور تمھارے پند کے
مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول
اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری
ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ انہا حکم
لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔

قُلْ إِنَّ كَانَ أَبَاوْ كُمْ وَأَبْنَاؤْ كُمْ
وَأَخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَ
عَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ بَاقِرَ فُتُمُوهَا
وَتِجَارَةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَ
مَسِكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٌ فِي
سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَاتِيَ اللَّهُ
بِسَامِرِهِ طَوَالَلَّهُ لَا يَهِيدِ الْقَوْمَ

الفَسِيقِينَ (پ ۰، التوبۃ: ۲۴)

انسان کے اندر والدین، اولاد، بھائی، بیوی، خاندان اور مال، تجارت اور مکان ان سب چیزوں سے محبت فطری چیز ہے، لیکن رب تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ فرماتا ہے کہ اگر تمھارے اندر ان سب چیزوں کی محبت میری اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے تو تم گویا خطرہ کی حد میں داخل ہو چکے ہو اور بہت جلد تم کو میرا غضب و عذاب اپنی لپیٹ میں لے لیگا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک مومن کے لئے رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ صرف یہ کہ فرض ہے بلکہ سب سے قریبی رشته داروں اور سب سے قیمتی متاع پر مقدم ہے۔ خود رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔

(صحیح البخاری، کتاب الایمان ، باب حب الرسول.....الخ، الحدیث: ۱۵، ج ۱، ص ۱۷)

یعنی تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسکے نزدیک اس کے والد اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤ۔

ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! عز وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اس کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی (کامل) مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسکے نزدیک اسکی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔“ یہ سنکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس ذات کی قسم! جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی آپ میری جان

سے بھی زیادہ محبوب ہیں اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں اب! اے عمر!

(صحیح البخاری ، کتاب الایمان والنذور، باب کیف کانتالخ، الحدیث:

(۲۸۳، ج ۶۶۳۲)

جتنگ احمد میں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باپ بھائی اور شوہر پروانہ وارثتے
ثرتے شہید ہو گئے۔ انھیں جب یہ معلوم ہوا تو اس کا کچھ غم نہ کیا بس یہ پوچھا کہ رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ جب ان کو بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بخیر و
سلامت ہیں تو بولیں کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دکھادو، آپ کو دیکھ کر (اور ایک
روایت میں ہے کہ بتا بانہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر) کہنے لگیں: ”کُلُّ
مُصِيْبَةٍ بَعْدَكَ جَلَّ“ یعنی آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے۔

(السیرۃ النبویۃ لابن هشام، غزوة احد، شأن المرأة الديناریۃ، ج ۳، ص ۸۶)

یہ تھا محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ صادق! کیا اسکی نظریں سکتی ہے؟

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
آپ یقیناً میرے نزدیک میری جان اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں لیکن
جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جاتے ہیں تو جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھنے لوں قرار نہیں آتا، لیکن اس دنیا سے رخصت
ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو کر آپ اننباء کرام علیہم السلام کے ساتھ بلند مقام
میں ہو گے اور میں نیچے درجے میں ہونے کے سبب اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں آپ کو نہ
دیکھ سکوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اتنے میں حضرت

جبرائیل علیہ السلام یا آیت لے کر حاضر ہوئے:

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اپنے ساتھی

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّلِحِينَ جَوَاحِدُ
أُولَئِكَ رَفِيقًا (پ ۵، النساء: ۶۹)

ہیں۔

(حلیۃ الاولیاء، الحدیث: ۵۵۱۶، ج ۴، ص ۲۶۷)

اسی لئے صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک لمحہ کے لئے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو بے چین دیکھنا گوارانہ کرتے۔ فتح مکہ سے پہلے مشہور صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ دشمنان اسلام کے نزغے میں آگئے، صفوان بن امیہ نے ان کو قتل کرنے کے لئے اپنے غلام نسطاس کے ساتھ تنعمیم بھیجا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدود حرم سے باہر لے جایا گیا تو ابوسفیان نے (جو بھی اسلام نہ لائے تھے) ان سے پوچھا: زید! میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم پسند کر سکتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس تمہاری جگہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ہوں اور تم ان کو قتل کریں اور تم آرام و سکون سے اپنے اہل میں رہو۔ حضرت زید نے جواب دیا: اللہ کی قسم! میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس وقت میرے حضور جہاں کہیں بھی ہوں ان کو ایک کانٹا بھی چھے اور میں آرام و سکون سے اپنے اہل میں رہو۔ یہ کہ ابوسفیان نے کہا میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ کسی سے ایسی محبت کی جاتی ہو جیسی محبت محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے ان کے اصحاب کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔

(شرح الشفاء للقاضی عیاض، باب الثانی، فصل فيما روی عن السلف، ج ۲، ص ۴۴)

حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی صحبت میں پہنچنے کے بعد آپ کے لئے اپنا چین چین نہ سمجھا اپنی راحت، راحت نہ سمجھی اپنی جان، جان نہ سمجھی، بلکہ یہ سب کچھ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر قربان کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سفر میں ہوتے تو حضرت بلاں رضی اللہ عنہ آپ کو ہر طرح کا آرام پہنچانے میں کوئی دیققہ فروگز اشت نہ کرتے۔ دھوپ کا وقت ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے لئے سایہ کا انتظام کرتے، پڑاؤ ڈالا جاتا تو خیمہ نصب کرتے، معروکوں میں ہوتے تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے محافظ ہوتے۔ جب حضرت بلاں رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آگیا تو انکی زوجہ نے کہا وَأَخْرُنَاهُ (ہائے غم) حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: نہیں بلکہ ”وَأَطْرَبَاهُ الْقَيْ غَدَ الْأَحِبَّهُ مُحَمَّداً وَ صَحْبَهُ“

(شرح الشفاء للقاضی عیاض، باب الثانی، فصل فيما روی عن السلف، ج ۲، ص ۴۳)

واہ خوشی! کل ہم محمد اور ان کے اصحاب سے ملیں گے (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم) اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے محبت، اس کی رفتار سے محبت، اسکی گفتار سے محبت، اس کے لباس و طعام سے محبت، غرض اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔

حضرت عبد بن جرچ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: میں نے دیکھا آپ بیل کے دباغت کئے ہوئے چہرے کا بے بال جو تا پہنچتے ہیں۔ حضرت عبد الداہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایسا ہی جو تا پہنچا کرتے تھے جس میں بال نہ ہوں اسی لئے میں بھی ایسا ہی جو تا پہنچا پسند کرتا ہوں۔

(صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب غسل الرجلین.....الخ، الحدیث ۱۶۶، ج ۱، ص ۸۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا، جو کی روٹی اور شور با حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا یا گیا جس میں کدو اور خشک کیا ہوا تملکین گوشت تھا، کھانے کے دوران میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا کہ پیا لے کے کناروں سے کدو کی قاشیں تلاش کر رہے ہیں اسی لئے میں اس دن سے کدو پسند کرنے لگا۔

(صحیح البخاری ، کتاب الاطعمة ، باب الدباء ، الحدیث ۵۴۳۳ ، ج ۳ ، ص ۵۳۶)

امام ابو یوسف (شاغرد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کے سامنے اس روایت کا ذکر آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کدو پسند فرماتے تھے مجلس کے ایک شخص نے کہا: لیکن مجھے پسند نہیں یہ سن کر امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لی اور فرمایا: جَدِّدِ الْإِيمَانَ وَ إِلَّا لَا قُتْلَنَكَ تجدید ایمان کر، ورنہ تم کو قتل کئے بغیر نہ چھوڑوں گا۔

(الشفاللقارضی ، باب الثنائی ، فصل فی علامہ صحبتہ صلی اللہ علیہ وسلم ، ج ۲ ، ص ۵۱)

تعظیم رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم

جس بڑے سے محبت ہوتی ہے اس کی عظمت دل و دماغ پر چھا جاتی ہے، پھر یہ چاہئے والا اپنے محبوب کی تعظیم اور اس کی عظمت کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے، اسلام نے تو ہر بڑے کی تعظیم کا درس دیا ہے۔

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُؤْقِرْ كَبِيرَنَا فَلَيَسَ مِنَّا

(سنن الترمذی ، کتاب البر والصلة ، باب ماجاء فی رحمة الصبيان ، الحدیث ۱۹۲۶ ، ج ۳ ، ص ۳۶۹)

جو ہمارے چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑے کی تعظیم نہ کرے تو وہ

ہم میں سے نہیں۔

اور نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سارے بڑوں میں سب سے بڑے ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ آج تک اتنا بڑا پیدا نہ ہوا، اور نہ ہی پیدا ہوگا، اس لئے آپ کی تعظیم بھی سب سے بڑھ کر ہونی چاہئے۔ قرآن ناطق ہے۔

ترجمہ کنز الایمان: یہ شک ہم نے تمہیں بھیجا
حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈرستاتا تاکہ اے
لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاو
اور رسول کی تعظیم و تو قیر کرو اور صبح و شام
اللہ کی پاکی بولو۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِيدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا ۝ لِتُوْمُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوْقِرُوهُ طَ وَتُسَبِّحُوهُ
بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

(پ ۲۶، الفتح: ۸، ۹)

آپ غور کریں اس آیت میں پہلے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس کے معا بعد رسول معظم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تو قیر کا حکم دیا گیا ہے اور پھر اللہ عزوجل نے اپنی تسبیح کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی تسبیح پر اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تو قیر کو مقدم کر کے تعظیم حبیب کی اہمیت و عظمت میں کس قدر اضافہ کر دیا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد مبشر اور نذیر بنائیں کرائیں اور لئے بھیجا گیا ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا نہیں، اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں اور پھر رب عزوجل کی تسبیح کریں۔

ایک مقام پر قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنے والوں کی کامرانی کا اس طرح اعلان کر رہا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اُترادہ بامرا دھوئے۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَ
نَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنْزِلَ مَعَهُ لَا أُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

(پ، ۹، الاعراف: ۱۵۷)

اس آیت کریمہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و نصرت کرنے والوں کو کامیابی کی خصانت دی گئی ہے۔

یہ ارشادات ربیٰ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پیش نظر تھے، اس لئے انہوں نے اپنے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تعظیم کی کہ دنیا کے کسی شہنشاہ کی بھی اس طرح تعظیم نہ کی جاسکی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعظیم و توقیر کا حال دیکھ کر صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے نمائندہ عروہ بن مسعود نے جو بھی ایمان نہ لائے تھے، یہ تاثر پیش کیا تھا، گویا یہ اپنے کانہیں غیر کاتا ثڑھے۔ آپ نے کہا:

”اے لوگو! خدا کی قسم میں بادشاہوں کے درباروں میں بھی پہنچا ہوں قیصر و کسری اور نجاشی کی ڈیپوڑیوں پر بھی حاضری دے چکا ہوں۔ خدا کی قسم کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم ہوتے نہیں دیکھی، جتنی تعظیم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی ان کے اصحاب علیہم الرضوان کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی ان کے دہن اقدس سے لعاب مبارک نکلا وہ کسی نہ کسی شیدائی کے ہاتھ میں پڑا جسے اس نے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیا، اور جب وہ اپنے اصحاب کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس کی تعمیل میں دوڑ پڑتے ہیں، اور جب وہ دخوا کرتے ہیں تو دخوا کے پانی کے لئے ایک دوسرے پر پیش قدمی کرتے ہیں، اور

جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو وہ لوگ خاموش اور پر سکون رہتے ہیں اور تعظیم و توقیر میں ان کی طرف نظر بھر کر دیکھتے تک نہیں،۔

(السیرۃ النبویۃ لابن حشام، ج ۳، ص ۲۶۸)

یہ تھا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا انداز تعظیم و توقیر کا اجمالي خاکہ جسے رسول اللہ عزوجل و سلم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیگانے نے پیش کیا تھا، خود صحابہ کرام علیہم الرضوان نے واقعات کی دنیا میں تعظیم و توقیر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی کیسی مثالیں پیش کی ہیں تو آپ اصل کتاب میں ملاحظہ کریں گے یہاں پر بس بعض مثالوں پر اکتفا کیا جائیگا۔

﴿۱۱﴾ غزوہ غیربر کی واپسی میں مقام صہبہ پر بنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زانو پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا، حضرت علی نے نماز عصر نہ پڑھی تھی اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جارہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانو سر کاتا ہوں تو مبادا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خواب مبارک میں خلل آجائے، زانو نہ ہٹایا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا جب چشم مبارک کھلی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی نماز کا حال عرض کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی آفتاب پلت آیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز عصر ادا کی پھر سورج ڈوب گیا۔

(الشفاء، ج ۱، ص ۵۹، ۴ شواهد النبوة، رکن سادس، ص ۲۲۰)

تعظیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر افضل العبادات نماز اور وہ بھی صلوٰۃ و سطحی (نماز عصر) مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہا لکریم نے قربان کر دی چشم فلک نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا ہو گارب تعالیٰ کے ایک بندہ کی درخواست پر اس کے ایک فدائی کے لئے سورج کو پٹایا گیا ہو، اور ایک فدائی نے محض تعظیم و توقیر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر اتنی

عظمی قربانی دی ہو۔ اسی کو امام اہلسنت قدس سرہ اس طرح بیان فرماتے ہیں:

مولیٰ علی نے داری تری نیند پر نماز

اور وہ بھی عصر سب سے جو عالیٰ خطر کی ہے

۲) بھرت کے موقع پر یار غار حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو جان ثاری کی مثال قائم کی ہے وہ بھی اپنی جگہ بے مثال ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں غار کے قریب پہنچ تو پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے صفائی کی، غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ کو بند کرنے کے لئے کوئی چیز نہ ملی تو آپ نے اپنے پاؤں کا گنگوٹھا ڈال کر اسکو بند کیا، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو بلا یا اور حضور تشریف لے گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زانو پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے، اتنے میں سانپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو کاٹ لیا، مگر صدیق اکبر، شدتِ الم کے باوجود مخصوص اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے آرام میں خلل نہ واقع ہو، بدستور ساکن و صامت رہے، آخر جب پیانہ صبر بریز ہو گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جب آنسو کے قطرے چہرہ اقدس پر گرے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم بیدار ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے واقعہ عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ڈسے ہوئے حصے پر اپنا العاب دہن لگادیا فوراً آرام مل گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سانپ کا یہ زہر ہر سال عود کرتا بارہ سال تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس میں مبتلا رہے پھر آخر اس زہر کے اثر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔

(مدارج النبوت، ج ۲، ص ۵۸)

۳) رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ذوالقعدہ ۶ھ میں صحابہ کے ساتھ عمرہ

کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے لئے روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ پہنچ تو قریش پر خوف و ہراس طاری ہوا اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا اور ان کو یہ ہدایات دیں کہ تم قریش کو یہ بتانا کہ ہم جنگ کے لئے نہیں عمرہ کی ادا نیگی کیلئے آئے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت بھی دینا اور وہ مسلمان مرد دعوت جو مکہ میں ہیں انکو فتح کی خوشخبری سنانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ان سے حضرت ابیان بن سعد امومی ملے جو ابھی ایمان نہ لائے تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنی پناہ و ضمانت دی اور اپنے گھوڑے پر سوار کر کے ان کو مکہ مکرمہ لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لوگوں تک رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ ادھر حدیبیہ میں صحابہ علیہم الرضوان کہنے لگے کہ عثمان خوش نصیب ہیں کہ ان کو طواف بیت اللہ نصیب ہو چکا ہو گا۔ یہن کر رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ میرے بغیر طواف نہ کریں گے۔ اس دوران یا فواہ اڑگئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ میں قتل کر دیئے گئے اسلئے رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بیعت لی، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چونکہ اس وقت مکہ میں تھے اس لئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ان کو بیعت کے شرف میں داخل کیا۔ اس طرح رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار پایا۔

بیعت رضوان کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے تو مسلمانوں نے ان سے کہا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے طواف بیت اللہ کر لیا۔

آپ نے جواب دیا تم نے یہ میرے بارے میں درست اندازہ نہ لگایا، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر میں مکہ میں ایک سال تک بھی پڑا رہتا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں ہوتے تب بھی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف نہ کرتا۔ قریش نے مجھ سے طواف کرنے کیلئے کہا تھا مگر میں نے انکار کر دیا۔

(مدارج النبوت، ذکر سال ششم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، فرضیت حج، ج ۲، ص ۲۰۹)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و ادب کا یہ پاس قابل ملاحظہ ہے کہ کفار آپ سے پیش کر رہے ہیں کہ طواف تنہا کرو لو مگر آپ جواب دیتے ہیں مجھ سے ایسا ہر گز نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کرلوں۔ ادھر مسلمانوں کا یہ تاثر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو طواف کعبہ نصیب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا عثمان ہمارے بغیر ایسا نہیں کر سکتے۔ گویا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے فدائی پر پورا اعتماد تھا۔ آقا ہو تو ایسا اور غلام ہو تو ایسا۔

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس قسم کی تعظیم اور اس طرح کا ادب صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اپنا کوئی ایجاد کردہ یا اختراعی نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور مجلس کے آداب خود بیان فرمائے ہیں۔ دنیا کا شہنشاہ آتا ہے تو اپنے دربار کے آداب خود بناتا ہے اور جب جاتا ہے تو اپنے نظام آداب کو بھی لے جاتا ہے۔ مگر شہنشاہ اسلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا عالم ہی نرالا ہے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو خالق کا نبات عزوجل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا ادب نازل فرماتا ہے اور کسی خاص وقت تک

کیلئے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ادب کے قوانین مقرر فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

آیا یہا الَّذِينَ امْنَوْا لَا تُقْدِمُوا
بَيْنَ يَدِيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا
اللَّهُ طَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والوالد اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ نتنا جانتا ہے۔

(پ ۲۶، الحجرات: ۱)

بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بقرہ عید سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی، یا کچھ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رمضان المبارک کے روزے ایک دن پہلے ہی سے شروع کر دیئے ان کو ہدایت کی گئی کہ ایسا نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، ایسا کرنا خطرناک ہے۔ آیت پر غور کرنے سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اللہ عزوجل کی بے ادبی ہے، جن لوگوں نے پیش قدیمی کی تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کی تھی، لیکن حکم ارتقا تو یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پیش قدیمی نہ کرو۔ دوسرے یہ کہ کسی قول، کسی فعل میں پیش قدیمی منع ہے کیونکہ آیت میں یہ حکم بلا قید ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ کے لئے تشریف لے جائیں تو بغیر کسی خاص مصلحت کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آگے چلنا بھی منع ہے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں سوال کرے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی اور کو اس کا جواب بھی نہ دینا چاہئے، اسی طرح جب کھانا حاضر ہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کھانا شروع نہ کیا جائے۔

پھر یہ بھی دیکھئے کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے پیش قدیمی کی تھی اللہ

عزوجل کی عبادت میں کی تھی روزہ رکھنے یا قربانی کرنے میں کی تھی، ایسا کرنا بظاہر کوئی جرم نہیں معلوم ہوتا، مگر آسمان سے تنبیہ اتر رہی ہے کہ اے ایمان والو! جلیل القدر عبادتوں میں بھی تم میرے نبی سے آگے نہ بڑھنا، اور اس معاملے میں اللہ عزوجل سے ڈرتے رہنا یقیناً اللہ عزوجل تمہاری ہر نقل و حرکت اور نشست و برخاست کو سنتا جانتا ہے۔ اسی سورہ میں آگے اللہ عزوجل اس طرح اپنے نبی کی تعظیم کی تعلیم دے رہا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفُعُوا
أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا
تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضُكُمْ
لِيَعْضُّ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ
لَا تَشْعُرُونَ ۝ (پ ۲۶، الحجرات: ۲)

اس آیت کریمہ میں بھی اللہ عزوجل نے اہل ایمان کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا ایک عظیم ادب سکھایا ہے کہ تم میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے سامنے بولنے میں بھی با ادب رہو، ان کے حضور یہکی آواز میں باتیں کرو، اگر تم نے زور زور سے چیخ کر ان کے حضور بات کی تو تمہارے عمل رائیگاں کر دیئے جائیں گے۔ غور کریں بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب عند اللہ معاف ہو سکتا ہے مگر رب تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی معاف نہ فرمائے گا۔

ادب گا ہے ست زیر آسمان از عرش نازک تر
نفس گم کر دہ می آید جنید و با یزید ایں جا

حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز تھے اس آیت کے بعد انہیں حکم ہوا کہ اس بارگاہ میں اپنی آواز پست کریں وہ انتہائی ادب اور خوف کی وجہ سے خانہ شین ہو گئے، بارگاہ نبوی میں جب حاضر نہ ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غیر حاضری کا سبب حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، یہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے پڑوئی تھے انہوں نے جا کر حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو کہا میں تو دوزخی ہو گیا میری ہی آواز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سب سے زیادہ بلند ہوتی تھی۔ حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کر دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں، ان سے کہہ دو وہ جنتی ہیں۔ اللہ عزوجل ان لوگوں کو سراہ رہا ہے جو رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُبُونَ أَصْوَاتَهُمْ
عِنْدَرَ سُوْلِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّنَقْوَىٰ ط
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝
آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیز گاری کے لیے پرکھ لیا ہے ان کے لیے بخشش اور برٹا اثواب ہے۔ (پ ۲۶، الحجروات: ۳)

آیت کریمہ ”لَا تَرْفُعُ آصْوَاتُكُمْ“ کے نازل ہونے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام علیہم الرضوان اس قدر ہیسی آواز سے باقیں کرتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ دریافت کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ حضرت

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو قسم کھا تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح باتیں کروں گا جیسے سرگوشی کی جاتی ہے۔ ان حضرات کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کو سراہا گیا جو با ادب ہیں اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آوازیں پست رکھتے ہیں۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب پاک میں کس قدر با ادب رہتے تھے۔ حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں: جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گفتگو شروع فرماتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اس طرح سر جھکا لیتے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ”یا محمد!، یا محمد!“ کہہ کر پکارنے والوں کی رب تعالیٰ نہ مت کرتے ہوئے فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ
الْحُجُورِ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ
إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ طَوَالُهُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

(پ ۲۶، الحجرات: ۵)

والامہر بان ہے۔

قبیلہ بنی تمیم کا ایک وفر عین دو پھر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے پہنچا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکان شریف کے اندر آرام فرمائے تھے، انہوں نے جھروں کے باہر سے ”یا محمد!، یا محمد!“ کہہ کر پکارنا شروع

کردیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ مگر خدائے تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ایسی بے ادبی گوارانہ فرمائی اور ایسا سخت حکم نازل فرمایا کہ ایسا کرنے والے بے عقل ہیں اور پھر ادب کی تعلیم دی کہ جب لوگ در دولت پڑپنچیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آواز نہ دیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کریں۔ رب تعالیٰ ایک مقام پر اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اس طرح ارشاد فرمار ہا ہے:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنُكُمْ ترجمہ کنز الایمان: رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہر او جیسا تم میں ایک کَدُّعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
(پ ۱۸، النور: ۶۳) دوسرے کو پکارتا ہے۔

اس آیت کریمہ کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم کو بلا نیں تو ان کے بلا نے کو کوئی معمولی بلا نانہ سمجھ بیٹھنا بلکہ میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بلا نے کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو عین نماز میں بھی آواز دیں فوراً نماز ہی کی حالت میں حاضر ہونا فرض ہے جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابوسعید بن معلی رضی اللہ عنہ نے کہا: میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی میں چونکہ نماز پڑھ رہا تھا اس لئے جواب نہ دیا پھر نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا (اس لئے حاضر نہ ہو سکا) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں سنتا ہے!

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والواللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لئے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔

بِيَّاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيْبُو اَللَّهُ
وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاهُمْ لِمَا
يُحِيِّكُمْ ﴿٢٤﴾ (پ ۹، الانفال: ۲۴)

(صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب ما جاء فی فاتحة الكتاب، الحدیث: ۴۴۷۴، ج ۳، ص ۱۶۳) اس قسم کا واقعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی مروی ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے بلانے کی عظمت کہ نماز جیسا عظیم فریضہ بھی ترک کر کے تعقیل حکم کو پہنچا فرض قرار دیا گیا۔

آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح باہم ایک دوسرے کو نام لیکر پکارتے ہو۔ ان کو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا خیر خلق اللہ وغیرہ صفاتی ناموں سے پکار سکتے ہو۔ اللہ عن ذلیل اہل ایمان کو ایسا حکم کیوں نہ دیتا کہ اس نے خود اپنے پورے کلام عظیم میں کہیں بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا ہے جب کہ دوسرے انبیاء کرام علی نبیتہم اصلوۃ والسلام کے ذاتی ناموں سے خطاب فرمایا ہے۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پیش نظر ب العالمین کے ذکورہ بالا ارشادات و فرمانیں تھے۔ انہوں نے ان احکام کو خوب سمجھ لیا تھا اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی شخصیت کو اپنے سرکی آنکھوں سے اور بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی عظمت و جلالت فطری طور پر ان کے قلوب واذہان میں رچ بس گئی تھی اس نے انہوں نے عقیدت و محبت اور احترام و ادب کے ایسے ایسے نمونے پیش کئے جن کی مثال ملنی مشکل ہے۔ آپ اس کتاب میں اس قسم کے واقعات پڑھیں گے جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ

کرام علیہم الرضوان کا غایت درجہ احترام و ادب واضح ہو گا اور پھر آپ کے قلوب بھی محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محفوظ ہوئے بغیر نہ ہیں گے اور یہی اس کتاب کا مقصد اصلی ہے۔

مؤلف صاحب متعدد انفرادی خصوصیات و امتیازات کے مالک ہیں ان کے اوپر اللہ عزوجل کا فضل عظیم ہے۔ دینی اور دنیوی دونوں قسم کی تعلیم سے بہرہ ور ہیں۔ پنجابی ان کی مادری زبان ہے مگر اردو، انگریزی، عربی اور فارسی میں بھی مہارت رکھتے ہیں، خدمت اسلام کا بھی جذبہ بیکاراں پایا ہے۔ اکثر اوقات اشاعت اسلام کی فکر میں سرگردان رہتے ہیں۔ گزشہ موسم حج (۱۴۰۲ھ) میں صوفی صاحب نے تبلیغ دین کے لئے یورپ کا سفر کیا تھا آپ کا یہ تبلیغی دورہ مصر، انگلینڈ، ہالینڈ، ترکی اور جمنی پر مشتمل تھا۔ وہاں کے اسلامی مرکز کے افراد سے ملاقات اور تبادلہ خیالات کے علاوہ بعض نئے مرکز کی بھی دریافت ہوئی اور خدمت اسلام کی راہیں ہموار ہوئیں۔

انجمن خدام احمد رضا لاہور کے آپ صدر ہیں جس نے تھوڑے عرصے میں متعدد و مفید کارآمد کتابیں شائع کرنے کا ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔

ادھر دو سال سے مقابلہ مقالہ نگاری، امام احمد رضا ایوارڈ اور تقسیم انعامات کا بھی صوفی صاحب اہتمام کرتے ہیں۔ جو ہندو پاک اور بنگلہ دیش سطح پر منعقد ہوتا ہے۔ مفید اور اہم کتابوں کی اشاعت میں بھی آپ خصوصی دلچسپی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ترجمہ ”نوار الحق فی الصلوۃ علی سید الخلق“ اور ”تعارف امام احمد رضا“ آپ ہی کے جذبہ دین پروری کا شمرہ ہے۔ اول الذکر علامہ یوسف اسمعیل نیہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عربی تصنیف کا ترجمہ ہے جو درود وسلام کے موضوع پر ایک شاندار کتاب ہے۔ جبکہ

دوسری کتاب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے حالات پر ایک مختصر مکر جامع کتاب ہے جس کے مرتب بھی خود صوفی صاحب ہیں۔

زیر نظر کتاب ”صحابہ کا عشق رسول“ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم بھی آپ کے ذوق تصنیف کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے جو آپ کے سوز پنہاں اور عشق رسالت کا پتا دیتی ہے۔ یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کو پڑھیں اور لطف انداز ہوں۔ اور مؤلف اور متعلقین کو دعا میں دیں۔

رب تعالیٰ صوفی صاحب کی یہ خدمت قبول فرمائے اور مزید اس قسم کی خدمات کی توفیق مخشنے اور فلاح دارین سے نوازے۔ آمین بجاه حسیہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم

افتخار احمد قادری (ریاض)

رکن انجمن الاسلامی مبارکپور (ہند)

جہادی الاولی ۳۰۰ھ فروری ۱۹۸۲ء



نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا متصور نہیں ہے، مومن کیلئے ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان، باپ، بیٹے اور مخلوق سے زیادہ محبوب رکھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (پ ۲۱، الاحزاب: ۶)

ترجمہ کنز الایمان: یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔

اور سر کار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: تم میں سے کوئی ایک ہرگز (کامل) ایماندار نہیں ہو گا جب تک کہ میں اسے اسکی جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔“

(المسند لامام احمد بن حنبل، حدیث عبد اللہ بن ریبعة السلمی، الحدیث ۱۸۹۸۳، ج ۷، ص ۹)

یہ بھی فرمایا: ”تم میں سے کوئی (کامل) ایماندار نہیں ہو گا جب تک میں اسے باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔“

(صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب حب الرسول من الایمان، الحدیث ۱۵، ج ۱، ص ۱۷)

علاماتِ محبت

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہت سی علامتیں اور آثار ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے امتحان کے لئے کسوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک علامت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بکثرت ذکر کرنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: ”مَنْ أَحَبَّ شَيْءًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ“ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے، اس کا ذکر بکثرت کرتا ہے۔

(کنز العمال، کتاب الاذکار، الباب الاول، الحدیث ۱۸۲۵، ج ۱، ص ۲۱۷)

تعظیم

کثرت ذکر کے ساتھ ساتھ ایک علامت یہ بھی ہے کہ تعظیم و تکریم کا کوئی دقیقہ

فروگز اشت نہ کیا جائے اور حضور سید الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک کمال تعظیم و تکریم اور صلوا وسلام کے ساتھ لے اور نام پاک لیتے وقت خوف و خشیت عجز و انکساری اور خشوع و خضوع کا اظہار کرے۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ ترجمہ نز الایمان: رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہر او جیسا تم میں ایک کَدُّعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
(پ ۱۸، النور: ۶۳) دوسرے کو پکارتا ہے

تفسیر کبیر میں ہے:

لاتندوہ کما ینادی بعضکم بعضا لا تقولوا يامحمد يا اباالقاسم ولكن قولوا يا رسول الله يا نبى الله .(التفسیرالکبیر، ج ۸، ص ۴۲۵، پ ۱۸، النور: ۶۳)

”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یوں نہ کہو زی محمد! یا، ابا القاسم! بلکہ عرض کرو: یا رسول اللہ!، یا نبی اللہ!“

(یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نام یا نسبت سے نہ پکارو بلکہ اوصاف اور لفاظ سے یاد کرو) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتُكُمْ ترجمہ نز الایمان: اے ایمان والو! اپنی آوازیں فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوا لَهُ اوچی نہ کرو اس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں **بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ** تحجطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ (پ ۲۶، الحجرات: ۲)

ابو محمد کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ای لاتسابقوه بالکلام ولا تغلوظوا به بالخطاب ولا تندوہ باسمه نداء

بعضکم بعضاً ولكن عظموه ووقروه ونادوه باشرف ما يحب ان ينادي
به يار رسول الله! يا نبی اللہ۔ (الشفاء، الباب الثالث، ج ۲، ص ۶۵)

”یعنی کلام میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے سبقت نہ کرو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے ہم کلام ہوتے ہوئے سختی سے بات نہ کرو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا نام لیکر نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی تعظیم و تقدیر کرو اور اشرف ترین اوصاف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو نداء کرو جن سے نداء کئے جانے کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پسند فرمائیں اور یوں کہو یار رسول اللہ!
یا نبی اللہ!“ (عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم)

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بے ادبی کفر ہے

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے لیے آواز بلند کرنے اور تعظیم و تقدیر کے بغیر بلا نے سے منع فرمایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی اس بے ادبی کو رو انہیں رکھا اور اس عظیم جرم کے مرتكب کو اعمال کے بر باد ہو جانے کی وعید سنائی، معلوم ہوا کہ بارگاہ رسالت کی بے ادبی اعمال کے ضائع ہو جانے کا سبب ہے اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کفر کے سوا کوئی گناہ اعمال کے ضائع ہونے کا سبب نہیں ہے اور جو چیز اعمال کے ضیاع کا سبب ہو، کفر ہے۔

اب غور کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بے ادبی اعمال کے ضائع ہو جانے کا سبب ہے اور جو ضیاع اعمال کا سبب ہو کفر ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بے ادبی کفر ہے۔ یہ بھی پیش نظر ہے کہ حیات ظاہری میں اور وصال کے

بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی شان تعظیم و تکریم کے سلسلے میں یکساں ہے۔
امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو جعفر منصور سے مکالمہ

ابو جعفر منصور بادشاہ مسجد نبوی علی صاحب الصلوٰۃ والسلام میں حضرت امام مالک علیہ الرحمۃ سے ایک مسئلہ میں گفتگو کر رہا تھا، امام مالک علیہ الرحمۃ نے اس سے فرمایا:

یا امیر المؤمنین لاترفع صوتك فى هذا المسجد فان الله عزو جل ادب

قوماً فقال: لَا تَرْفُعُ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ... الآية و مدح قوماً

فقال: إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُبُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ... الآية و ذم قوماً فقال: إِنَّ

الَّذِينَ يُنَادِونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُّرَاتِ ... الآية و ان حرمتہ میتا کحرمتہ

حیا فاستکان لها ابو جعفر وقال يا ابا عبد الله استقبل القبلة وادعوا ام استقبل

رسول الله؟ فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلك ووسيلة ایک آدم

علیه السلام الى الله تعالیٰ يوم القيمة بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله.

(شرح الشفاء، الباب الثالث، ج ۲، ص ۷۲)

”اے مسلمانوں کے امیر! اس مسجد میں آواز بلند نہ کر کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا اور فرمایا:

لَا تَرْفُعُ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ
ترجمہ کنز الایمان: اپنی آوازیں اوچی نہ کرو

صَوْتِ النَّبِيِّ (ب ۲۶، الحجرات: ۲) اس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے۔

اور ایک جماعت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیز گاری کے لیے پرکھ لیا ہے ان کے لیے بخشش اور بہادر اثواب ہے۔

انَّ الَّذِينَ يَغْسِلُونَ أَصْوَاتَهُمْ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ طَ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝
(پ ۲۶، الحجرات: ۳)

اور ایک جماعت کی خدمت کرتے ہوئے فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ
الْحُجُّرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝
(پ ۲۶، الحجرات: ۴)

بے شک بعد از وصال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی عزت ایسی ہے جیسی آپ کی حیات ظاہری میں تھی۔ (یہ سن کر) ابو جعفر نے فروتنی کا اظہار کیا اور کہا اے ابو عبد اللہ (امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیت) قبلہ رو ہو کر دعا کروں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی طرف رخ کروں؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے کیوں رخ پھیرتا ہے حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم قیامت کے دن بارگاہ الہی میں تیرے اور تیرے جا مجد آدم علیہ السلام کے وسیلے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی طرف رخ کر اور شفاعت کی درخواست کر، اللہ تعالیٰ تیرے لئے شفاعت قبول فرمائیگا۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تعظیم رسول

عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب قریش نے انھیں صلح حدیبیہ کے سال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، انھوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بے پناہ تعظیم دیکھی، انھوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وَاللَّهُ وَلِمْ جَبْ بَعْضِي وَضَوْفَرْ مَاتَتْ تُو صَاحَبَةَ كَرامَةَ عَلَيْهِمُ الرَّضْوَانَ وَضَوْكَا پَانِي حَاصِلَ كَرْنَ كَلَّتْ لَئَنْ بَعْدَ دَكْوْشَ كَرْتَتْ تَحْتِي كَرْقَرِي تَهَا كَهَ وَضَوْكَا پَانِي نَهَلَنَ كَسْبَ لَثْرَبِي إِنْهَوْنَ نَهَ دَيْكَهَا كَهْ نَبِيْ أَكْرَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلِمْ وَهَنْ مَبَارِكَ يَا بَنِي مَبَارِكَ كَا پَانِي ڈَالَتَتْ تُو صَاحَبَهَ كَرامَةَ عَلَيْهِمُ الرَّضْوَانَ اَسَهَّتْهُوْنَ مَيْلَتَيْ، اَپَنِے چَهَرَے اوْرَ جَسْمَ پَرْ مَلَتَيْ اوْرَ آبَرَوْپَاتَيْ، آپَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلِمْ کَا کَوَنِي بَالَّهُ جَسَدَ اَطْهَرَ سَهَ جَدَانِبِیں ہُوتَا تَهَا مَگَرَاسَ کَ حَصُولَ كَلَّتْ جَلَدَیَ كَرْتَتْ، جَبْ آپَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلِمْ اَخْصِیں کَوَنِي حَکْمَ دَیَتَتْ تَوْفَرَأَقْتِيلَ كَرْتَتْ اوْرَ جَبْ نَبِيْ أَكْرَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلِمْ گَفْتَوْرَ فَرَمَاتَتْ تَوْ آپَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلِمْ کَسَمَنَے خَامُوشَ رَهَتَتْ اوْرَ اَزْرَاهَ تَعْظِيمَ آپَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلِمْ کَيْ طَرَفَ آنَکَھَ اَٹَھَا كَرَ نَهَ دَيْكَهَتَتْ۔ (الشفاء، الباب الثالث، ج ۲، ص ۶۹)

جب عروه بن مسعود قریش کے پاس واپس گئے تو انھیں کہا اے قوم قریش! میں کسری، قیصر اور نجاشی یعنی شاہ فارس، شاہ روم اور شاہ جہش کے پاس ان کی حکومت میں گیا ہوں، بخدا میں نے ہرگز کوئی بادشاہ اپنی قوم میں اتنا محترم نہیں دیکھا، جس قدر محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اپنے اصحاب میں معزز ہیں۔ ایک روایت میں ہے ”میں نے کبھی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے رفیق اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب علیہم الرضوان آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔“ تحقیق کہ میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑے گی اور ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتی رہے گی۔“

حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں چاہتا تھا کہ کسی امر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کروں لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت کے سبب دوسال تک مؤخر کرتا رہا۔“ (الشفاء، الباب الثالث، ج ۲، ص ۷۱)

حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے زیادہ نہ تو کوئی محبوب تھا اور نہ میری نگاہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے زیادہ کوئی محترم تھا اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے احترام کے سبب میں آنکھ بھر کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے جمال کی زیارت نہ کر سکتا تھا۔ اگر مجھ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی صفت پوچھی جائے تو میں بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں آنکھ بھر کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے جمال سے بہر نہیں ہو سکتا تھا۔“

(الشفاء، الباب الثالث، ج ۲، ص ۶۸)

حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم میں اس حال میں حاضر ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے گرد اس طرح میٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے میٹھے ہوئے ہیں۔

(الشفاء، الباب الثالث، ج ۲، ص ۶۹)

(یعنی وہ اپنے سروں کو حرکت نہیں دے رہے تھے کیونکہ پرندہ اس جگہ بیٹھتا ہے جو ساکن ہو۔)
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ کابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے (صورۃ) مشابہ ہیں جب حضرت کابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے سے داخل ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تخت سے اٹھ کھڑے ہوئے ان کا استقبال کیا، ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور انھیں مرغب (ایک مقام) عنایت فرمایا (یہ سب کچھ اس لئے تھا کہ ان کی صورت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔

(الشفاء، الباب الثالث، ج ۲، ص ۸۸)

اگر اجلہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعظیم اور اس بارگاہ کے احترام میں مبالغہ کرنے اور ہر باب میں آداب کی رعایت کرنے کی روایات کا احاطہ کیا جائے تو کلام طویل ہو جائیگا۔ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اس ذات کریم کو بہترین القاب، کمال تواضع اور مرتبہ و مقام کی انتہائی رعایت سے خطاب کرتے تھے اور ابتداء کلام میں صلوٰۃ کے بعد ”فَدَيْتُكَ بِأَبِيٍّ وَأُمِّيْ“ میرے والدین بھی آپ پر فدا ہوں، یا ”بِنَفْسِيْ أَنْتَ يَارَسُوْلُ!“ میری جان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر شار ہے، جیسے کلمات استعمال کرتے تھے اور فیض صحبت کی فراوانی کے باوجود، محبت کی شدت کے تقاضے کی بنا پر، تعظیم و توقیر میں کوتا ہی اور تقصیر کے مرتكب نہیں ہوتے تھے بلکہ ہمیشہ حضور سید الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و اجالاں میں اضافہ کرتے تھے۔

تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

اسی طرح تابعین اور تابع تابعین بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعظیم آثار کے معاملہ میں انھیں کے قرش قدم پر تھے۔ حضرت مصعب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ان کی پشت جھک جاتی یہاں تک کہ یہ امران کے ہمنشیبوں پر گراں گزرتا۔

ایک دن حاضرین نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے ان کی اس کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: جو کچھ میں نے دیکھا ہے، تم دیکھتے تو مجھ پر اعتراض نہ کرتے۔ میں نے قاریوں کے سردار حضرت محمد بن منکد رکود دیکھا کہ میں نے جب بھی

ان سے کوئی حدیث پوچھی تو وہ رودیتے یہاں تک کہ مجھے ان کے حال پر حم آتا تھا۔

(الشفاء، الباب الثالث، ج ۲، ص ۷۳)

واقعاتٌ تعظیم

رَهْبَه میں غزوہ بنی امصارلیق سے واپسی کے وقت قافلہ قریب مدینہ ایک پڑاؤ پر ٹھہر اتوام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ضرورت کے لئے کسی گوشہ میں تشریف لے گئیں، وہاں آپ کا ہارٹوٹ گیا اسکی تلاش میں مشغول ہو گئیں اور قافلہ نے کوچ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معلم شریف اونٹ پر کس دیا اور انھیں یہی خیال رہا کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس میں ہیں اور قافلہ چل دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آکر قافلہ کی جگہ بیٹھ گئیں اور آپ نے خیال کیا کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس ہو گا۔ قافلہ کے پیچھے گری پڑی چیز اٹھانے کے لئے ایک صاحب رہا کرتے تھے۔

اس موقع پر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کام پر تھے جب وہ آئے اور انھوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تو بلند آواز سے "إِنَّ اللَّهَ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" پکارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کپڑے سے پردہ کر لیا انھوں نے اپنی اونٹی بٹھائی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پر سوار ہو کر لشکر میں پکچیں۔ منافقین سیاہ باطن نے اوہاں فاسدہ پھیلائے اور آپ رضی اللہ عنہما کی شان میں بدگوئی شروع کی بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آگئے اور انگی زبان سے بھی کوئی کلمہ بے جاسر زد ہوا۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئیں اور ایک ماہ تک بیمار رہیں اس زمانہ میں انھیں اطلاع نہ ہوئی کہ منافقین ان کی نسبت کیا بک رہے ہیں۔

ایک روز ام مسطح سے انھیں یہ خبر معلوم ہوئی اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدمہ میں اس قدر روئیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ ایک لمحہ کیلئے نیند آتی تھی۔ اس حال میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طہارت میں آیات قرآنی نازل ہوئیں جن سے آپ کا شرف و مرتبہ بڑھایا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طہارت و فضیلت از حد بیان ہوئی۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برسر منبر بقسم فرمادیا تھا کہ مجھے اپنے اہل کی پاکی و خوبی باقین معلوم ہے تو جس شخص نے ان کے حق میں بدگوئی کی ہے اس کی طرف سے میرے پاس کون معاذرت پیش کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: منافقین باقین جھوٹے ہیں ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا باقین پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کو مجھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر پیٹھتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بعدورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح آپ رضی اللہ عنہا کی طہارت بیان کی اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ اس سایہ پر کسی کا قدم نہ پڑے تو جو پور دگار عزوجل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ کو محفوظ رکھتا ہے کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل کو محفوظ نہ فرمائے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کیا: کہ ایک جوں کا خون لگنے سے پور دگارِ عالم عزوجل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نعلین اتار دینے کا حکم دیا، جو پور دگار عزوجل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین کی اتنی سی بات رَوَاءَ نہ فرمائے ممکن نہیں کہ وہ آپ صلی

الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے اہل کی آلو دگی گوارا کرے۔ اسی طرح بہت سے صحابہ علیہم الرضوان اور صحابیات رضی اللہ عنہن نے قسمیں کھائیں۔

(مدارج النبوت، قسم سوئم، باب پنجم، از هجرت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج ۲، ص ۱۵۹)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کو فریش کے پاس بھیجا تو قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طواف کعبہ کی اجازت دے دی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انکا کر دیا کہ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَسْوَاقِ طَوَافِ نَبِيِّنَا كَرِسْتَنَا جَبَ تَكَ كَرِسْوَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلِی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوَافَ نَبِيِّنَا كَرَتَ۔ (الشفاء، الباب الثالث، ج ۲، ص ۷۰)

بے نظیر ضیافت

ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی ضیافت کی اور عرض کیا: یا رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم! میرے غریب خانہ پر اپنے دوستوں سمیت تشریف لا کیں اور ما حضر تناول فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے یہ دعوت قبول فرمائی اور وقت پر مع صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے چلے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے پیچھے چلنے لگے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا ایک ایک قدم مبارک جوان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ رہا تھا گئے لگے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے دریافت فرمایا: اے عثمان! یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا:

یا رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے جس قدر قدم پڑے اسی قدر غلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کئے۔ (جامع المجزات، ص ۲۵۷)

شاہکار تعظیم

غزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صحابہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ اکرم کے زانو پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا: مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ اکرم نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جارہا ہے مگر اس خیال سے کہ زانو سر کا وں تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے زانو نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب چشم اقدس کھلی مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ اکرم نے اپنی نماز کا حال عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے دعا کی، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ اکرم نے نماز عصر ادا کی، پھر ڈوب گیا اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز، وہ بھی نماز وسطیٰ یعنی عصر مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ اکرم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی دی، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو بلا یا تشریف لے گئے اور انکے زانو پر سر اقدس کے عبادتیں بھی ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہی کے صدقہ میں ملیں۔

(الشفاء، ج ۱، ص ۴۹-۵۰۔ شواهد النبوة، رکن سادس، ص ۲۰)

بوقت ہجرت غار ثور میں پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس کے سوراخ بند کئے ایک سوراخ باقی رہ گیا اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو بلا یا تشریف لے گئے اور انکے زانو پر سر اقدس

رکھ کر آرام فرمایا اس غار میں ایک سانپ مشتاقِ زیارت رہتا تھا، اس نے اپنا سر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر ملا انہوں نے اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں فرق نہ آئے پاؤں نہ ہٹایا۔ آخر اس نے پاؤں میں کاٹ لیا جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آنسو چہرہ انور پر گرے چشم مبارک کھلی، عرض حال کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگادیا فوراً آرام ہو گیا۔ ہر سال وہ زہر عود کرتا، بارہ برس بعد اسی سے شہادت پائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جان بھی سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیند پر قربان کی۔ (مدارج النبوت، ج ۲، ص ۵۸)

ان ہی نکات کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے اپنے ان اشعار میں بیان فرمایا ہے:

مولانا علی نے واری تری نیند پر نماز
اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے

صدیق بلکہ غار میں جاں اس پر دے چکے
اور حفظ جاں تو جان فروض غر کی ہے

ہاں تو نے ان کو جان انھیں پھیر دی نماز
پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے

ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں
اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

(حدائق بخشش)

ادب سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

صحیح البخاری میں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن حوف میں صلح کرانے کے واسطے تشریف لے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا مودع نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تاکہ میں اقامت کہوں، فرمایا: ہاں! اور انہوں نے امامت کی، اس عرصہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صرف میں قائم فرمایا، جب نمازوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو تصفیق کی (بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی انگلیاں اس طرح مارنا کہ آواز پیدا ہو، تصفیق کھلاتا ہے۔) اس غرض سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خبردار ہو جائیں کیونکہ ان کی عادت تھی کہ نماز میں کسی طرف توجہ نہ کرتے تھے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصفیق کی آواز سنی تو گوشہ چشم سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، لہذا پیچھے ہٹنے کا قصد کیا اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے فرمایا کہ اپنی ہی جگہ پر قائم رہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھا اٹھائے اس نوازش پر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے امامت کا حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کیا اور پیچھے ہٹ کر صرف میں کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ابو بکر! جب میں خود تحسیں حکم کرچا تو تم کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کون سی چیز مانع تھی عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ابو قافہ کا بیٹا اس لا Quinn کے رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔

(صحیح البخاری، کتاب الادان، باب من دخل لیوم الناسالخ، الحدیث ۶۸۴، ج ۱، ص ۲۴۴)

عزت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیلئے مر منے کا جذبہ

حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اور بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کی صفت میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو کم عمر لڑکے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے میرے دونوں جانب بچے ہیں یہ کیا مدد کر سکیں گے۔ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، پچا جان تم ابو جہل کو پہچانتے ہو میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں تمہاری کیا غرض ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں کرتا ہے۔ اُس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں اسکو کیوں لوں تو میں اس سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں مجھے اس کے سوال اور جواب پر تجھب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا اور جو پہلے نے کہا تھا، ہی اس نے بھی کہا اتفاقاً ابو جہل میدان میں مجھے دوڑتا ہوا نظر آگیا میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ جارہا ہے۔ دونوں یہ سنکر تواریں ہاتھ میں لئے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانی شروع کر دی یہاں تک کہ اس کو گرا دیا۔

(صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب ۱۰، الحدیث ۳۹۸۸، ج ۳، ص ۱۴)

گستاخی کی سزا

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں جو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تین برس بعد پیدا ہوئیں جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی عمر شریف ۳۳ برس تھی۔ اور بعض نے حضرت رقیہ کو حضرت زینب سے بڑی بتایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چھوٹی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے چچا ابوالہب کے بیٹے عقبہ سے نکاح ہوا تھا۔ جب سورہ تبت نازل ہوئی تو ابوالہب نے اس سے اور اس کے دوسرے بھائی عتبیہ، جس کے نکاح میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی تیسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، سے یہ کہا کہ میری ملاقات تم سے حرام ہے اگر تم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی بیٹیوں کو طلاق نہ دیدو، اس پر دونوں نے طلاق دیدی۔ یہ دونوں نکاح بچپن میں ہوئے تھے خصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ اسکے بعد فتح مکہ پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاوند مسلمان ہو گئے تھے مگر بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرصہ ہوا ہو چکا تھا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دونوں مرتبہ جبشہ کی ہجرت کی۔

(المواهب اللدنیۃ، المقصد الثانی، الفصل الثانی فی ذکر اولادہ الکرام، ج ۲، ص ۶۱)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی تیسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں اس میں اختلاف ہے کہ ان میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما میں سے کون بڑی تھیں اکثر کی رائے یہ ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی تھیں۔ اول عتبیہ بن ابی اہب

سے نکاہ ہوا مگر خصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورہ تَبَّت کے نازل ہونے پر طلاق کی نوبت آئی جیسا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیان میں گزر لیکن ان کے خاوندوں مسلمان ہو گئے تھے جیسا کہ گزر کا اور ان کے خاوندوں عتبیہ نے طلاق دی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آکر نہایت گستاخی و بے ادبی سے پیش آیا اور نامناسب الفاظ بھی زبان سے نکالے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے ضرر، دی کہ یا اللہ! عزوجل اپنے کتوں میں سے ایک کتاب اس پر مسلط فرماء، ابو طالب اس وقت موجود تھا و وجود مسلمان نہ ہونے کے سہم گیا اور کہا کہ اس دعائے ضرر سے تجھے خلاصی نہیں۔ چنانچہ عتبیہ ایک مرتبہ شام کے سفر میں جارہاتھا اس کا باپ ابو لهب باوجود ساری عدالت اور دشمنی کے کہنے لگا کہ محمد کی دعائے ضرر کی فکر ہے، قافلے کے سب لوگ ہماری خبر کھیلیں۔ ایک منزل پر پہنچے وہاں شیر زیادہ تھے، رات کو تمام قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ٹیلا سا بنا کر اس پر عتبیہ کو سلا لیا اور قافلے کے تمام آدمی چاروں طرف سوئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور سب کے منہ سو نگھے اسکے بعد ایک جست لگائی اور اس میں پر پہنچ کر عتبیہ کا سر بدن سے جدا کر دیا، اس نے ایک آواز دی مگر ساتھ ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ بعض موئخین نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہو چکا تھا اور یہ قصہ پہلے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ بہر حال حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلے شوہروں میں سے ایک مسلمان ہوئے دوسرے کے ساتھ یہ عبرت کا واقعہ پیش آیا۔

(المراجع السابق، ص ۶۲)

تعظیم ارشادِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

﴿۱﴾ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نکال کر پھینک دیا اور فرمایا: کیا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ آگ کا انگار اپنے ہاتھ میں ڈالے۔ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کسی نے اس شخص سے کہا تو اپنی انگوٹھی اٹھا اور پیچ کراس سے فائدہ اٹھا، اس نے جواب دیا نہیں اللہ عزوجل کی قسم میں اسے کبھی نہیں لو زگا جب رسول خدا عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے تو میں اسے کیسے لے سکتا ہوں؟

(مشکوٰۃ، کتاب اللباس، باب الخاتم، الفصل الاول، الحدیث ۴۳۸۵، ج ۲، ص ۴۸۱)

﴿۲﴾ حضرت عمرو بن شعیب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے اوپر ایک چادر تھی جو کسی کے رنگ میں بلکی سی رنگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا: یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ مجھے اس سوال سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناگواری کے آثار معلوم ہوئے۔ گھر والوں کے پاس واپس ہوا تو انہوں نے چولھا جلا رکھتا ہی میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی۔ دوسرے روز جب حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چادر کیا ہوئی۔ میں نے قصہ سنادیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عورتوں میں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنادی عورتوں کے پہنے میں تو کوئی مضائقہ نہ تھا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب اللباس، باب فی الحمرۃ، الحدیث ۶۶، ج ۴، ص ۷۳)

(۳) حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ایک مرتبہ دولت کدے سے باہر تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک قبرہ (گنبد دار جگرہ) دیکھا جو اپر بننا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: فلاں انصاری نے قبہ بنایا ہے۔

حضرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سن کر خاموش رہے کسی دوسرے وقت وہ انصاری حاضر خدمت ہوئے۔ سلام عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اعراض فرمایا، سلام کا جواب بھی نہ دیا انہوں نے اس خیال سے کہ شاید خیال نہ ہوا ہو دوبارہ سلام عرض کیا

حضرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے پھر اعراض فرمایا اور جواب نہیں دیا وہ اس کے کیسے متحمل ہو سکتے تھے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جو وہاں موجود تھے کہا: خدا عزوجل کی قسم! سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تو مجھے ناپسند فرمارہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم باہر تشریف لے گئے تھے راستے میں تمہارا قبہ دیکھا تھا اور دریافت فرمایا تھا کہ کس کا ہے؟

یہ سن کروہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے اور اس کو توڑ کر ایسا زیں کے برابر کر دیا کہ نام و نشان بھی نہ رہا اور پھر آ کر عرض بھی نہیں کیا۔ اتفاقاً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہی کا اس جگہ کسی دوسرے موقع پر گزر رہا تو دیکھا کہ وہ قبہ وہاں نہیں ہے، دریافت فرمایا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا انصاری نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے اعراض کو، کئی روز ہوئے ذکر کیا تھا، تو ہم نے کہہ دیا تھا تمہارا قبہ دیکھا ہے انہوں نے آ کر اس کو بالکل توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تعمیر آدمی پر و بال ہے مگر وہ تعمیر جو سخت ضرورت اور مجبوری کی ہو۔

(سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ماجاء فی البناء، الحدیث ۵۲۳۷، ج ۴، ص ۴۶۰)

(۴) حضرت رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ ایک سفر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ

علیہ والہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور ہمارے اونٹوں پر چادریں پڑی ہوئی تھیں جن میں سرخ ڈورے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ سرخی تم پر غالب ہوتی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ ہم لوگ ایک دم ایسے گھبرا کے اٹھے کہ ہمارے بھاگنے سے اونٹ بھی ادھرا دھر بھاگنے لگے اور ہم نے فوراً سب چادریں اونٹوں سے اتار لیں۔

(سنن ابی داؤد، کتاب اللباس، باب فی الحمّة، الحدیث، ۴۰۷۰، ج ۴، ص ۷۴)

﴿۵﴾ وَأَنَّلِ بْنَ جَجَرَ كَهْتَنَتِ ہیں کہ میں ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوا میرے سر کے بال بہت بڑھے ہوئے تھے میں سامنے آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ذَبَابٌ، ذَبَابٌ“ میں یہ سمجھا کہ میرے بالوں کو ارشاد فرمایا واپس گیا، اور ان کو کٹوادیا۔ جب دوسرے دن خدمت میں حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا: میں نے تجھے نہیں کہا تھا لیکن یہ اچھا کیا۔ (سنن ابی داؤد، کتاب الترجل، باب فی تطویل الحمّة، الحدیث ۴۱۹۰، ج ۴، ص ۱۱۲)

﴿۶﴾ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَغْفِلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَأَيْكَ نَعْمَرٍ بَحْتِجَا غَذْفَ سَعَهِيلِ رَبَّهَا نَهُونَ نے دیکھا اور فرمایا بہادرزادہ ایسا نہ کرو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے فائدہ کچھ نہیں نہ شکار ہو سکتا ہے نہ شمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور اتفاقاً کسی کو لوگ جائے تو آنکھ پھوٹ جائے، دانت لٹ جائے۔ بَحْتِجَا كَمْ عَمْرَهَا اس لَئِي جَبْ چَجاَ كَوْ عَنْفَلْ دِيْكَهَا تَوْپَهْرَ كَهْلِيَنَ لَگَ۔ انہوں نے دیکھ لیا فرمایا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا ارشاد سناتا ہوں کہ اس سے انہوں نے منع فرمایا ہے اور تو پھر اس کام کو کرتا ہے خدا عزوجل کی قسم تجوہ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے قصہ میں اس کے بعد ہے کہ

خدا عزوجل کی قسم! تیرے جنازے کی نماز میں شریک نہ ہوں گا اور نہ تیری عیادت کروں گا۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب تعظیم حديث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم...الخ، الحدیث ۱۷، ج ۱، ص ۱۹)

نوت: خذف یہ ہے کہ انگوٹھے پر چھوٹی سی کنکری رکھ کر انگلی سے پھینکی جائے یہ بچوں کا ایک بیکار اور اندیشہ ناک کھیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے بھتیجے نے ارشادِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سن لینے کے بعد بھی پابندی نہ کی جسے صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے اور ترک کلام کی قسم کھالی۔ آج مسلمان اپنے حالات پر غور کریں کہ احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ارشادات سرور کائنات علیہ اصولات والتحیات کی پابندی ہم میں کتنی ہے؟

کے حکیم بن حزم ام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کچھ طلب کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، پھر کسی موقع پر کچھ مانگا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مرحمت فرمایا، تیسری دفعہ پھر سوال کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا: کہاے حکیم! یہ مال سبز باغ ہے ظاہر میں بڑی میٹھی چیز ہے مگر اس کا دستور یہ ہے کہ اگر دل کے استغناء سے ملے تو اس میں برکت ہوتی ہے اور اگر طمع اور لاثہ سے حاصل ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی ایسا ہو جاتا ہے (جیسے جوع البقر کی بیماری ہو) کہ ہر وقت کھاتے جائے اور پیٹ نہ بھرے۔ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ کے بعد اب کسی سے کچھ قبول نہیں کروں گا حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اسکے

بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال سے کچھ عطا کرنے کا ارادہ فرمایا انھوں نے انکار کر دیا اسکے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بار بار اصرار کیا مگر انھوں نے انکار ہی کیا۔

(صحیح البخاری، کتاب الزکاۃ، باب الاستعفاف عن المسألة، الحدیث، ۱۴۷۲، ج ۱، ص ۴۹۷)

﴿۸﴾ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی تھی تھیں۔ اول جو کچھ خرچ کرتی تھیں اندازہ سے ناپ تول کر خرچ کرتی تھیں مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باندھ باندھ کرنے رکھا کرو اور حساب نہ لگایا کرو جتنا بھی قدرت میں ہو خرچ کیا کرو تو پھر خوب خرچ کرنے لگیں۔ اپنی بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو نصیحت کیا کرتی تھیں کہ اللہ عزوجل کے راستے میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ہونے اور بچنے کا انتظار نہ کیا کرو کہ اگر ضرورت سے زیادتی کا انتظار کرتی رہو گی تو ہونے کا ہی نہیں (کہ ضرورت خود بڑھتی رہتی ہے) اور اگر صدقہ کرتی رہو گی تو صدقہ میں خرچ کر دینے سے نقصان میں نہ رہو گی۔ (الطبقات الکبریٰ، ج ۸، ص ۱۹۸)

﴿۹﴾ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ میں تھیں اپنا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بڑی تھیں، قصہ سناؤں! شاگرد نے عرض کیا ضرور، فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیشی تھیں جس کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے اور خود پانی کی مشکل بھر کر لاتی تھیں جس کی وجہ سے سینہ پر مشکل کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے اور گھر میں جھاڑا وغیرہ خود ہی دیتی تھیں جسکی وجہ سے تمام کپڑے میلے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئیں میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تم بھی جا کر حضور صلی اللہ

تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے ایک خدمت گار مانگ لوتا کہ تم کو کچھ مدمل جائے۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں وہاں مجع تھا اور حیاء مزاج میں بہت زیادہ تھی اس لئے حیاء کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرم آئی، واپس آ گئیں۔ دوسرے روز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم خود تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ فاطمہ! رضی اللہ عنہا کل تم کام کے لئے تھیں وہ حیاء کی وجہ سے چپ ہو گئیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے اور مشک کی وجہ سے سینہ پر رسی کے نشان ہو گئے، ہر وقت کے کام کا ج کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے کل ان سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں ایک یہ بھی مانگ لیں اس لئے تھیں۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم! میرے اور علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہی بستر ہے اور وہ بھی مینڈھے کی ایک کھال ہے رات کو اسکو بچھا کر سو جاتے ہیں صحح کو اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کرو! حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس دس برس تک ایک ہی بچھونا تھا وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوغہ تھا رات کو بچھا کر اسی پر سو جاتے تھے، تو تقویٰ حاصل کرو اور اللہ عزوجل سے ڈرو اور اپنے پروردگار عزوجل کافر یہ سہ ادا کرتی رہو اور گھر کے کام کا ج کو انجام دیتی رہو اور جب سونے کے واسطے لیٹا کر تو تسبحان اللہ ۳۳ مرتبہ اور الحمد لله ۳۳ مرتبہ اور اللہ اکبر ۳۳ مرتبہ پڑھ لیا کرو یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا میں اللہ عزوجل سے اور اس کے رسول صلی اللہ

تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے راضی ہوں۔

(سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی التسبیح عند النوم، الحدیث ۶۳، ج ۴، ص ۴۰۹)

﴿ ۱۰ ﴾ حضرت عبد اللہ بن زیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے تھے اور وہ ان سے بہت محبت فرماتی تھیں۔ انہوں نے ہی گویا بھانجے کو پالا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس فیاضی سے پریشان ہو کر کہ خود تکفیں الٹھاتیں اور جو آئے فوراً خرچ کر دیتیں ایک مرتبہ کہہ دیا کہ خالہ کا ہاتھ کس طرح روکنا چاہئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی یہ فقرہ پہنچ گیا۔ اس پر ناراض ہو گئیں کہ میرا ہاتھ روکنا چاہتا ہے اور ان سے نہ بولنے کی نذر کے طور پر قسم کھائی۔ حضرت عبد اللہ بن زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالہ کی ناراضگی سے بہت صدمہ ہوا، بہت لوگوں سے سفارش کرائی مگر انہوں نے اپنی قسم کا اذرفرمادیا۔

آخر جب عبد اللہ بن زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پریشان ہوئے تو حضور قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے نھیاں کے دو حضرات کو سفارش بنا کر ساتھ لے گئے وہ دونوں حضرات اجازت لیکر اندر گئے یہ بھی چھپ کر ساتھ ہو لئے جب وہ دونوں سے پردہ کے اندر بیٹھ کر بات چیت فرمائے لگیں تو یہ جلدی سے پردہ میں چلے گئے اور جا کر خالہ سے لپٹ گئے اور بہت روئے اور خوشامد کی وہ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے ارشادات یاد دلاتے رہے اور احادیث میں جو ممانعت اس کی آئی ہے وہ سناتے رہے جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی تاب نہ لاسکیں اور رونے لگیں آخر معاف فرمادیا اور بولنے لگیں، لیکن اپنی قسم کے کفارہ میں بار بار غلام آزاد کرتی تھیں، حتیٰ کہ

چالیس غلام آزاد کئے اور جب بھی اس قسم کے توڑے نے کا خیال آ جاتا انواروتیں کہ دوپٹا تک آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔

(صحیح البخاری، کتاب الادب، باب الہجرۃ، الحدیث ۶۰۷۳، ج ۳، ص ۱۱۹)

شوق موافقت

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات سے چند گھنٹے پیشتر اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی وفات شریف کس دن ہوئی، اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو تھی کہ کفن و یوم وفات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی موافقت ہو۔ حیات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا اتباع تھا ہی وہ ممات میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم، ہی کی اتباع چاہتے تھے۔

(صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب موت یوم الاثنین، الحدیث ۱۳۸۷، ج ۱، ص ۴۶۸)

اللہ اللہ یہ شوق اتباع کیوں نہ ہو صدیق اکبر تھے
تعظیم تبرکات

﴿۱﴾ مہربوت چوم لی: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے مختلف دینی و مذہبی راہنماؤں کے پاس آتے جاتے رہے۔ ہر مذہبی رہنماؤں کی وصیت کیا کرتا کہ میرے بعد فلاں کے پاس جانا، یہ بھی پوچھ لیا کرتے کہ ان کی زندگی کے بعد کس کے پاس رہنا چاہتے ہیں، جب آپ نے آخری راہب سے پوچھا کہ اب مجھے کس کی خدمت میں رہنا ہوگا، اس نے کہا: اب دنیا میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا

جس کی صحبت میں تمحیص امن و سلامتی نصیب ہو، ہاں! عنقریب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لارہے ہیں جو دین ابراہیم پر ہوں گے، ان کی ہجرت گاہ ایسا مقام ہوگا جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوگا اور اس میں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہربنوت ہوگی، آپ ہدیہ قبول کریں گے صدقہ نہیں کھائیں گے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصیحت کو پیش نظر رکھا اور ملک عرب کی طرف رخ کیا جو نبی وہ مدینہ پہنچے تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے قبا تشریف لاپکے تھے۔ سلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ چیزیں لیکر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا: یہ صدقہ ہے، حضور قبول فرمائیے! آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا: تم کھالو لیکن خود نہ کھایا۔ حضرت سلمان نے دل میں کہا ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعد ازاں میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت میں مل گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قباصے مدینہ تشریف لائے تو میں کچھ چیزیں لیکر حاضر خدمت ہوا اور عرض کی! حضور یہ ہدیہ ہے قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیسا تحمل کر کھالیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا: دو علمائیں پوری ہو گئیں۔

اس کے بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنتِ بقیع میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر دو شالہ تھا جسے آپ چادر اور ازار کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے

پیچھے ہولیا۔ جب کپڑے کا دامن ایک طرف ہوا تو میں نے مہربوت کو ویسا ہی پایا جیسے مجھے بتایا گیا تھا، میں جذبات سے اس قدر مغلوب ہوا کہ بے اختیار مہربوت کو بڑھ کر چوم لیا اور ورنے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلا یا، میں نے اپنی ساری سرگزشت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی آپ نے اسے پسند فرمایا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی میری سرگزشت سنی۔

(شواهد النبوة، رکن رابع، ص ۸۴)

۲) موئے مبارک: مقام حدیبیہ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بال بغوا کر تمام بال مبارک ایک سبز درخت پر ڈال دیئے۔ تمام اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی درخت کے نیچے جمع ہو گئے اور بالوں کو ایک دوسرے سے چھیننے لگے۔ حضرت ام عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے بھی چند بال حاصل کر لئے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر پانی مرض کو پلاٹی تو رب العزت اسے صحت عطا کر دیتا۔

(مدارج النبوت، قسم سوئم، باب ششم، ج ۲، ص ۲۱۷)

۳) لحاب مبارک: عتبہ بن فرقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں موصل کو فتح کیا ان کی بیوی ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہم چار عورتیں تھیں ہم میں سے ہر ایک خوشبوگانے میں کوشش کرتی تھیں تاکہ دوسری سے اطیب ہو اور عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خوبصورت لگاتے تھے مگر اپنے ہاتھ سے تیل مل کر داڑھی کوں لیتے تھے اور ہم میں سب سے زیادہ خوشبودار تھے

جب وہ باہر نکلتے تو لوگ کہتے کہ ہم نے عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں سے بڑھ کر کوئی خوبیوں میں سوچنے لگے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ ہم استعمال خوبیوں میں کوشش کرتی ہیں اور تم ہم سے زیادہ خوبیدار ہو، اس کا سبب کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے بدن پر آ بلے نمودار ہوئے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے اس بیماری کی شکایت کی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کپڑے اتار دو۔ میں نے ستر کے علاوہ کپڑے اتار دیئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اپنا غالب اپنے دست مبارک پرڈال کر میری پیٹھ اور پیٹ پر مل دیا اس دن سے مجھ میں خوبیوں پیدا ہو گئی۔ (الاستیعاب، باب حرف العین، عتبہ بن فرقہ، ج ۳، ص ۱۴۸)

﴿۲﴾ پسینہ مبارک : حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیلوہ فرمایا۔ حالت خواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو پسینہ آیا، میری ماں امام سلیم نے ایک شیشی لی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا پسینہ مبارک اس میں ڈالنے لگیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمانے لگے: امام سلیم تم یہ کیا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا: یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا پسینہ ہے ہم اس کو اپنی خوبیوں میں ڈالتے ہیں اور وہ سب خوبیوں سے عمدہ خوبی ہے۔

دوسری روایت مسلم میں ہے کہ امام سلیم نے یوں عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہم اپنے بچوں کے لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے عرق مبارک کی برکت

کے امیدوار ہیں۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: تو نے صحیح کہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے عرق مبارک کو چھپے اور بدن پر مل دیا کرتے تھے اور وہ تمام بلاوں سے محفوظ رہا کرتے تھے۔ (صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب طیب عرق النبی، الحدیث: ۲۳۳۱، ص ۲۷۷)

﴿۵﴾ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم! میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، میں اسے اس کے خاوند کے گھر بھیجنा چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں آپ کچھ عنایت فرمائیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس موجود نہیں مگر کل صحیح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لیکر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اپنے دونوں بازوؤں سے اس میں اپنا پسینہ مبارک ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی پھر فرمایا کہ اسے لے جا کر اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں ترکر کے مل لیا کرے۔ پس جب وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے پسینہ مبارک کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوبی پہنچتی یہاں تک کہ اس کے گھر کا نام ”بیت المُطَبِّیین“ (یعنی خوبشو والوں کا گھر) ہو گیا۔

(شوائد النبوة، رکن خامس، ص ۱۸۱)

واللہ جوں جائے مرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے لہیں پھول

﴿۶﴾ ادب و برکت اندوزی: حدیث شریف میں مروی ہے کہ ابو مخدود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں بال اس قدر دراز تھے کہ جب وہ بیجھتے اور ان بالوں کو چھوڑ دیتے

تو زمین پر پہنچتے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بالوں کو اتنا کیوں بڑھایا؟ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے ان کو نہیں کٹو تو اس کا ایک وقت ان پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک لگا تھا اس لئے میں نے ترکا ان بالوں کو جھوڑ رکھا ہے۔

(مدارج النبوت، باب نہم، واجبات حقوق آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ... الخ، ج ۱، ص ۳۶)

﴿۷﴾ **مسح دست کا کمال:** حافظ ابو نعیم متوفی (۲۳۰) نے برداشت عباد بن عبد الصمد نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیہاں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنیر سے کہا کہ دستر خوان لاوتا کہ ہم چاشت کا کھانا کھائیں، وہ لے آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ رومال لاوہ ایک میلا رومال لے آئی۔ آپ نے فرمایا کہ تنور گرم کراں نے تنور گرم کیا پھر آپ کے حکم سے رومال اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ ایسا سفید نکلا گویا کہ دودھ ہے۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ رومال ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے روئے مبارک کو مسح فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو اسے ہم یوں صاف کر لیتے ہیں کیونکہ آگ اس شے پر اثر نہیں کرتی جو انہیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے روئے مبارک پر سے گزرنی ہو۔

(شواهد البیوۃ، رکن خامس، ص ۱۸۱)

ہر چہا سباب جمال است رخ خوب ترا
بہہ بروجہ کمال است کما لاتخنی

﴿۸﴾ **قطعہ پیرا ہن کی تاثیر:** حضرت محمد بن جابر کے دادا سنان ابن طلق الیمنی و فد بنی حنفیہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور

ایمان لائے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے کرتے کا ایک ٹکڑا عنایت فرمائیے میں اس سے انس رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انکی درخواست منظور فرمائی۔ کرتے کا ایک ٹکڑا عنایت فرمایا۔ محمد بن جابر کا بیان ہے کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا، وہ قطعہ ہمارے پاس تھا، ہم اسے دھوکر بغرض شفاء اپنے بیاروں کو پلا یا کرتے تھے۔

(الخصائص الکبریٰ، باب ما وقع فی وفـد بنی حنیفة مـن الآیـات، ج ۲، ص ۲۶)

﴿٩﴾ **عصائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات:** جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرے پاس غزوہ ذات الرقاع میں ایک اونٹ تھا جس کا گھٹنا لوٹا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے مگر اونٹ کی سوت روی اس بات کی اجازت نہ دی تھی کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے سکوں مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے سارا ماجرہ سنایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عصاء لیکر اونٹ پر تین مرتبہ گھسا اور پھر پانی کا چلو بھر کر اس پر چھڑ کا اور حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ مجھے فتم ہے اس خدا عزوجل کی جس نے ہم پر ایک سچا رسول مبعوث فرمایا، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جس قدر تیز چلاتے تھے میرا اونٹ بیچپے نہ رہتا اور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہی رہتا تھا۔ (الخصائص الکبریٰ، کتاب ذکر معجزاتہ فی ضروب الحیوانات، باب قصہ الجمل والنافقة، ج ۲، ص ۹۷)

﴿١٠﴾ **حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ منبر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، رکھا اور پھر فرط محبت سے اپنے چہرے پر پھیل لیا۔**

﴿ ۱۱ ﴾ مسجد نبوی (علی صاحب الصلوٰۃ والسلام) سے ملحت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا جس کا پر نالا بارش میں آنے جانے والے نمازیوں پر گرا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھوا دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ عزوجل کی قسم اس پرنا لے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا یہ سنکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ میری گردن پر سوار ہو کر اسکو پھر اسی جگہ لگادیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

(وفالوفاء، الفصل الثاني عشر، باب بین عمرو العباس، ج ۱، ص ۴۸۷)





لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی اس وقت تک (کامل) مومن نہ ہو گا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ، اس کی اولاد، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ (صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب حب الرسول...الخ، الحدیث ۱۵، ج ۱، ص ۱۷)

اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین باتیں جس میں ہوں گی وہ حلاوت ایمان پا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس مرد مومن کے نزد یک اللہ (عزوجل) اور اس کا رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ عزوجل کے لئے کرے۔ اور تیسرا بات یہ کہ کفر سے نجات پالینے کے بعد اس کی طرف پلٹ کر آنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہو۔

(صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب حلاوة الایمان، الحدیث ۱۶، ج ۱، ص ۱۷)

اس حدیث میں ایمان کی بنیاد اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بتایا گیا۔ اور اس محبت کو ایمان کی دوسری حلاوتوں پر مقدم کر کے اسکی غیر معمولی اہمیت بھی بتا دی گئی جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ محبت رسول جان ایمان ہے۔

﴿۱﴾ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے

عرض کیا کہ بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوائے میری جان کے جو میرے دو پہلوؤں میں ہے، میرے نزدیک ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی ہرگز مومن (کامل) نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“ یہ سنکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی۔ پیشک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک میری جان سے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”الآن یا عمر یعنی ہاں اب ! اے عمر !۔“

(صحیح البخاری، کتاب الایمان والندور، باب کیف کانت یمین النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، الحدیث ۶۶۳۲، ج ۴، ص ۲۸۳)

﴿۲﴾ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے اپنی تین حالتیں بیان کیں۔ دوسری حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”کوئی شخص میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب اور میری آنکھوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جلالت و بیعت والا نہ تھا۔ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت کے سبب سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر بھر کرنے دیکھ سکتا تھا۔“ (الشفاء، الباب الثالث، ج ۲، ص ۶۸)

﴿۳﴾ جب فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قافہ ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ

تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: ”قِتْمٌ ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان (ابوقافہ) کے اسلام کی نسبت (آپ کے چچا) ابو طالب کا اسلام (اگر وہ اسلام لاتے) میری آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈا کرنے والا تھا۔“

(الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الباب الثانی، ج ۲، ص ۴۱)

﴿۲﴾ حضرت ثما مہ بن اثاثل یہاںی جواہل یہاں کے سردار تھے ایمان لا کر کہنے لگے:

”خدا عزوجل کی قِتْمٌ میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا۔ آج وہی چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ عزوجل کی قِتْمٌ میرے نزدیک کوئی دین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے زیادہ برانہ تھا باب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ عزوجل کی قِتْمٌ میرے نزدیک کوئی شہر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے زیادہ مبغوض نہ تھا۔ اللہ عزوجل کی قِتْمٌ اب وہی شہر میرے نزدیک سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔“

(صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب وفدبنت حنیفة، الحدیث، ۴۳۷۲، ج ۳، ص ۱۳۱)

﴿۵﴾ حضرت ہند بنت عتبہ (زوجہ ابوسفیان بن حرب) جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکیجا چاگئی تھیں، ایمان لا کر کہنے لگیں: ”یا رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! روئے زمین پر کوئی اہل خیمه میری نگاہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خیمه سے زیادہ مبغوض نہ تھے۔ لیکن آج میری نگاہ میں روئے زمین پر کوئی اہل خیمه آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خیمه سے زیادہ محبوب نہیں۔“

(صحیح البخاری، کتاب مناقب الانصار، باب ذکر ہند بنت عتبہ، الحدیث ۳۸۲۵، ج ۲، ص ۵۶۷)

﴿۶﴾ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حنین کے دن رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے مجھے مال عطا فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم میری نظر میں مبغوض ترین خلق تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم مجھے عطا فرماتے رہے ہیاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم میری نظر میں محبوب ترین خلق ہو گئے۔

(جامع الترمذی، کتاب الزکاء، باب ماجاء فی اعطاء المؤلفة قلوبهم، الحدیث ۶۶۶، ج ۲، ص ۱۴۷)

﴿۷﴾ فَتَحَّمَّلَ مکہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوسفیان بن حرب کو جواب تک ایمان نہ لائے تھے، اپنے پیچھے چھپر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: اگر اجازت ہو تو اس دشمن خدا کی گردن اڑا دوں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم! میں نے ابوسفیان کو پناہ دی ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے ابن خطاب! اگر ابوسفیان قبیلہ بنو عدی میں سے ہوتے تو آپ ایسا نہ کہتے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ! جس دن آپ اسلام لائے، آپ کا اسلام میرے نزدیک خطاب کے اسلام سے (اگر وہ اسلام لاتا) زیادہ محبوب تھا، کیونکہ آپ کا اسلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے نزدیک زیادہ محبوب تھا۔

(الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الباب الثانی، ج ۲، ص ۴۱)

﴿۸﴾ بنگ احمد میں ایک عفیفہ کے باپ بھائی اور شہر شہید ہو گئے۔ اسے یہ خبر ملی تو کچھ پروانہ کی اور پوچھا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کیسے ہیں؟ جب اسے بتا دیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم بمحمد اللہ تجیر ہیں تو بولی کہ مجھے دکھا دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگی:

كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَّ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَهُوَتِ هُرْ مُصِيبَةٍ يَحْجَ هُوَ.

(المراجع السابق، ص ۴۲)

بڑھ کر اس نے رخ اقدس کو جو دیکھا تو کہا
تو سلامت ہے تو پھر یہیں سب رخ والم
میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فرا
اے شہدیں ترے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں، ہم

﴿٩﴾ حضرت عبد الرحمن بن سعد رضي الله تعالى عنهما کا بیان ہے کہ حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنہما کا پاؤں سن ہو گیا۔ ان سے یہ سن کر ایک شخص نے کہا کہ آپ رضي الله تعالى عنہما کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہے اسے یاد کیجئے یہ سن کر آپ رضي الله تعالى عنہما نے کہا: یا محمد اہ!
(اور آپ کا پاؤں اچھا ہو گیا)۔ (المراجع السابق، ص ۴۳)

﴿١٠﴾ حضرت بلال بن رباح رضي الله تعالى عنہما کی وفات کا وقت آیا تو ان کی زوجہ نے کہا: وَاحْزَنْاهُ (ہائے غم) یہ سنکر حضرت بلال رضي الله تعالى عنہما نے کہا:
واطرباہ القی غداً الاحبة محمداً و حزبه۔ (المراجع السابق)
واہ خوشی! میں کل دوستوں یعنی محمد صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور آپ کے اصحاب رضي الله تعالى عنہما سے ملوں گا۔

﴿١١﴾ جب کے یہ میں قبیلہ اشعرین میں سے حضرت ابو موسیٰ رضي الله تعالى عنہ وغیرہ مدینہ شریف کو آئے تو زیارت سے مشرف ہونے سے پہلے پکار پکار کر یوں کہنے لگے:
غداً نلقی الاحبة محمداً و أصحابه (المراجع السابق، ص ۴۸)

ہم کل دوستوں یعنی محمد صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور آپ کے اصحاب رضي الله تعالى عنہما سے ملیں گے۔

رضائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جذبہ ایثار

جس روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عازم موضع تبوک ہوئے، حضرت عبد اللہ بن خیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے۔ ان کی دو حسین و حمیل بیویاں تھیں جنہوں نے اس روز خس کے پردوں کو پانی میں بسا کر ان سے نہایت عمدہ فرش تیار کئے اور پھر ان پر عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے نہایت عمدہ اور لذیذ کھانے پختے۔ جو نبی عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کھانوں کو دیکھا تو کہا سچان اللہ! وہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جسے پروردگار عالم عزوجل نے آئندہ و گزشتہ تمام گناہوں سے منزہ پیدا فرمایا، اس شدید گرمی کے موسم میں کفار سے قتل کے لئے تشریف لے جائیں اور عبد اللہ زنگار نگ کھانوں سے سیر ہو کر ان بیویوں سے مباشرت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا عزوجل کی قسم میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچوں ان بیویوں سے کلام نہیں کروں گا۔

گھر سے نکلے اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ایک طرف چل دیئے۔ بیویوں نے ہر چند کلام کی کوشش کی لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتقط نہ ہوئے۔ جوں ہی عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام تبوک کے نزدیک پہنچ ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک اونٹ سوار دور سے اس طرف آتا ہوا کھائی دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ امّن خیثہ ہو گا۔ نزدیک پہنچ ہو دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ابن خیثہ ہی تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا: اے ابن خیثہ! رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہی اچھی بات ہے تم فانی ناز و نعمت کو چھوڑ کر رضائے حق میں کھو گئے جو تمہارے لئے بہتر ہے۔

(شرح العالمة الزرقانی، باب غزوۃ تبوک، ج ۴، ص ۸۲)

حضرت ابوذر رضي الله تعالى عنه کا جذبہ جاں نثاری: حضرت ابوذر غفاری رضي الله تعالى عنه

فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لئے روانہ ہوئے تو میرا اونٹ بہت لاگرا اور ضعیف تھا۔ میرا خیال تھا کہ چند روز مزید ٹھہر کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے جاملوں گا۔ میں نے کئی روز تک اپنے اونٹ کو چارا کھلا یا بعد ازاں میں عازم سفر ہوا۔ جب ایک جگہ پہنچا تو میرے اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی جس کے باعث وہ آگے نہ چل سکا میں نے اپنا مال و متارع اپنی پشت پر رکھا اور چل دیا۔ راستے میں سخت گرمی سے دوچار ہونا پڑا۔ لشکر اسلام کے پاس پہنچا تو لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے عرض کیا کوئی شخص پیدل چلا آرہا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ابوذر غفاری ہوں گے۔ جب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے قیام کی حالت میں فرمایا: خوش رہو ابوذر! رضي الله تعالى عنہم تم تہنا سفر کرتے ہو تہما ہی اس دنیا سے جاؤ گے اور تہما ہی بروز حشر اٹھو گے۔

کہتے ہیں جب ابوذر غفاری رضي الله تعالى عنه کا وصال ہوا تو آپ تہما ہی تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نے آپ رضي الله تعالى عنه کو بحالت وفات پایا تو کہا۔ سچ فرمایا تھا خدا کے صادق و مصدق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے۔ صاحب مستقی نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت ابوذر رضي الله تعالى عنه کے مزار کی زیارت کی ہے۔ مجھے وہاں وہ کیف و جذب حاصل ہوا جو دوسرا سے صحابہ کرام رضي الله تعالیٰ عنہم کے مزار پر نہ پاس کا۔ میں نے ان کی قبر کے پاس نماز ادا کی جو نبی میں سر بسجود ہوا آپ رضي الله تعالیٰ عنہ کی تربت انور سے مشک و عنبر کی خوشبو لکی جس نے میرے مشام جاں تک کو معطر و معنبر کر دیا۔

(شواهد النبوة، رکن رابع، ص ۱۲۵)

شدیم خاک ولیکن زرتبت ما

تو اس شاخت کزیں خاک مردے خیزد

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا قابل دید نہ رہی: جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کی خبر آپ کے موزان عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو وہ اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نایبنا ہونے کی دعماً نگنے لگے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر یہ دنیا میرے لئے قابل دید نہ رہی۔ آپ اسی وقت نایبنا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا: تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا: لذت نگاہ تودیکھنے میں ہے مگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا ذوق ہی نہیں رکھتیں۔ (المرجع السابق، ص ۱۳۹)

اضطرابِ عشق: ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق زار حضرت ثوبان

رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو ان کا چہرہ اتر ہوا اور رنگ اڑا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی۔ تو دردمند عاشق نے عرض کیا: یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ کوئی جسمانی تکلیف ہے اور نہ کہیں درد۔ بات یہ ہے کہ رخ انور جب آنکھوں سے اوچھل ہوتا ہے تو دل بیتاب ہو جاتا ہے فوراً زیارت سے اس کو تسلی دیتا ہوں۔ اب رہ رہ کر مجھے یہ خیال ستارہ ہا ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بلند کہاں ہو گا اور یہ مسکین کس گوشہ میں پڑا ہو گا۔ اگر روئے تباہ کی زیارت نہ ہوئی تو میرے لئے جنت کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، فراق و بحر کا یہ جانکاہ صدمہ تو اس دل نا تو اس سے برادشت نہ ہو سکے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ماجرا سنکر خاموش ہو گئے

بیہاں تک کہ جو بیل امین علیہ السلام یہ مژده لے کر تشریف لائے۔

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ۔

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ
مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ
وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ ح
وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (پ ٤، النساء: ٦٩)

(الجامع لاحکام القرآن، الحدیث ٢٣٠٩، ج ٥، ص ٢٦١)

اطاعت گزار عشق کو جنت میں جدائی کا صدمہ نہیں پہنچے گا بلکہ ان کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی معیت و رویت میسر ہو گی۔ حقیقت یہ ہے کہ عشق مصطفوی میں صرف حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت نہ تھی بلکہ سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہی حال تھا۔

اللہ اور اس کا رسول بس: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاقاً اس زمانے میں میرے پاس کچھ مال موجود تھا۔ میں نے کہا آج اتفاق سے میرے پاس مال موجود ہے، اگر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں خوشی خوشی گھر گیا اور جو کچھ گھر میں تھا اس میں سے آدھا لے آیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا، میں نے عرض کیا: کہ چھوڑ آیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: آخر کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا کہ آدھا چھوڑ آیا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رکھا تھا سب لے آئے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر! گھروالوں کے لئے کیا چھوڑا۔ انہوں نے عرض کیا: ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں۔

پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس

صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس

یعنی اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت، ان کی رضا اور خوشنودی کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ یہ قصہ غزوہ تبوک کے لئے فراہمی مال و اسباب کا ہے۔ (شرح العلامہ الزرقانی، باب غزوۃ تبوک، ج ۴، ص ۶۹)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفہ اخلاق میں حب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اتباع سنت کے نہایت نہایاں ابواب ہیں انہوں نے ہوش کی آنکھیں کھو لیں تو اسلام کو اپنے گھر انے پر شروع دن ہی سے پرتو فکن دیکھا۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم، سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ، چچا حضرت انس بن نضر، بھائی حضرت براء بن الملک، خالہ ام حرام اور سبھی سرور دعائم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص شیدائی تھے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیع)

خاندان میں ہر وقت ذات رسالتمآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت حق کا چرچا ہوتا رہتا تھا۔ اس پاکیزہ ما حوال نے کمسن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نیجہ بودیا۔ اس کے بعد ان کو مسلسل دس تک رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس دوران، ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مثل اخلاق عالی نے اتنا متاثر کیا کہ وہ اپنے شفیق آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق بن گنے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب وصال فرمایا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا اندر ہیر ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاداں کو ہر وقت تڑپاتی رہتی تھی۔ ان کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی تھی جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو۔ عہد رسالت کا کوئی واقعہ کسی سے سنتے یا خود بیان کرتے تو آنکھیں نہ ہو جاتیں اور شدت تاثر سے آواز بھرا جاتی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ اپنے آپ پر قابو نہ رہتا اور سخت بے چینی کے عالم میں محفل سے اٹھ کھڑے ہوتے اور جب تک گھر پہنچ کر تبرکات نبوی کی زیارت نہ کر لیتے کل نہ پڑتی تھی۔

ایک دن سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کر رہے تھے کہ: ”میں نے کبھی کوئی ریشم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں چھووا، اور نہ کبھی کوئی خوشبو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک سے زیادہ خوشبو دار سمجھی“

(صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب صفة النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم،

الحدیث ۳۵۶۱، ج ۲، ص ۴۸۹)

اسی طرح بیان کرتے فرط محبت سے اتنے بے قرار ہو گئے کہ گریہ طاری ہو گیا اور زبان پر بے اختیار یہ الفاظ آگئے۔

”قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گی تو عرض کروں گا یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ادنیٰ غلام انس حاضر ہے۔“ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت کا یہ اثر تھا کہ انھیں اکثر خواب میں سید الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی تھی۔ اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو دنیا کی ہرشے سے محبوب تر تھے۔

(المسند لامام احمد بن حنبل، مسنندانس بن مالک بن النصر، الحدیث ۱۳۳۱۵، ج ۴، ص ۴۴۲)

صحیح بخاری میں خود ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں جو کسی شخص میں پائی جائیں تو گویا اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ ایک یہ کہ اللہ اور اللہ کا رسول عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو ساری دنیا سے عزیز تر ہوں، دوسرے یہ کہ جس سے محبت کرے اللہ عز وجل کی خاطر کرے، تیسرا یہ کہ اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں پڑ جانے کو کرتا ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب حلاوة الایمان، الحدیث ۱۶، ج ۱، ص ۱۷)

حضرت زاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: ایک بدؤی صحابی زاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باظہ رہ حسین نہ تھے، جنگل کے پھل سبزی وغیرہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ لا یا کرتے تھے۔ جب وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہوتے تو آپ شہر کی چیزیں کپڑا وغیرہ ان کو دے دیا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محبت تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ زاہر ہمارا روستائی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔

ایک روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بازار کی طرف نکلے تو دیکھا کہ زاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی متارع بیچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹھ کی طرف جا کر ان کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک رکھا اور ان کو گود میں لے لیا وہ بولے کون ہے؟ مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اپنی پیٹھ (بقصد برکت) اور بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے لپٹانے لگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو ایسے غلام کو خریدے وہ بولے یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ بیچتے ہیں تو مجھے کم قیمت پائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”تو خدا کے نزد یک گراں قدر ہے۔“

(جامع الترمذی، شمائل محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، باب ماجاء فی صفة مزاہ...الخ، الحدیث ۲۳۸، ج ۵، ص ۵۴۵)

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ نہیں جا رہے تھے بونقیس نے وہ قافلہ لوٹا جس میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ان کو مکہ میں لا کر بیجا۔ حکیم بن حزم انے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے ان کو خرید لیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کے فراق کا بہت صدمہ تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ اولاد کی محبت فطری چیز ہے وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فراق میں روئے اور اشعار پڑھتے پھر اکرتے تھے، اکثر جو اشعار پڑھتے تھے ان کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ ”میں زید کی جدائی میں رورہا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے کہ اس کی امید رکھوں یا موت نے اسکا کام تمام کر دیا کہ اس سے ما یوس ہو جاؤں، خدا عزوجل کی قسم مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تجھے اے زید نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی پہاڑ نے ہلاک کیا۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر میں کبھی بھی واپس آئے گا یا نہیں ساری دنیا میں میری انتہائی غرض تیری واپسی ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو مجھے زید ہی یاد آتا ہے اور جب بارش ہونے کو آتی ہے تو بھی اسی کی یاد مجھے ستاتی ہے اور جب ہوا میں چلتی ہیں تو وہ بھی اس کی یاد کو بھڑکاتی ہیں۔ ہائے میرا غم اور میری فکر کس قدر طویل ہو گئی میں اس کی

تلash اور کوشش میں ساری دنیا میں اونٹ کی تیز رفتاری کو کام میں لاوں گا اور دنیا کا چکر لگانے سے نہ اکتا واؤں گا اونٹ چلنے سے اکتا جائیں تو اکتا جائیں لیکن میں کبھی بھی نہ اکتا واؤں گا۔ اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دوں گا۔ ہاں میری موت ہی آگئی تو خیر کہ موت ہر چیز کو فنا کر دینے والی ہے آدمی خواہ کتنی ہی امیدیں لگائے مگر میں اپنے بعد فلاں فلاں رشتہ داروں اور آل و اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی اسی طرح زید کو ڈھونڈتے رہیں۔

غرض وہ یہ اشعار پڑھتے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھر اکرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کو جانا ہوا اور انہوں نے زید کو پہچانا۔ باپ کا حال سنایا، شعر سنائے اُنکی یاد و فراق کی داستان سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ تین شعر کہہ بھیجے جن کا مطلب یہ تھا کہ ”میں یہاں مکہ میں ہوں“۔ ان لوگوں نے جا کر زید کی خبر و خبران کے باپ کو سنائی اور وہ اشعار سنائے جو زید نے کہے تھے اور پتا بتایا۔ زید کے باپ اور بچپن اور کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی خاطر مکہ مکرمہ پہنچ، تحقیق کی، پتا چلایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا: اے ہاشم کی اولاد! اپنی قوم کے سردار! تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ عزوجل کے گھر کے پڑوئی، تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان فرماؤ اور کرم کرو۔ فدیہ قبول کرو اور اس کو رہا کر دو بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بس اتنی سی بات ہے! عرض کیا حضور! بس یہی عرض ہے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسکو بلا اور اس سے پوچھ لواگروہ

تمحارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیہ یہی کے وہ تمہاری نذر ہے اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ انھوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے استحقاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا یہ بات خوشی سے منظور ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاعے گئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: تم ان کو پہچانتے ہو عرض کیا جی ہاں پہچانتا ہوں یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، انکے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور! میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم میرے لئے باپ کی جگہ بھی ہیں اور پہچا کی جگہ بھی ہیں۔

ان دونوں باپ پہچانے کہا کہ زید! غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ باپ پہچا اور سب گھروں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ان میں (حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے) ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے جب یہ جواب سناؤ ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنائیا بنالیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور پہچا بھی یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔

(الاصابة في تمييز الصحابة، زيد بن حارثة، ج ۲، ص ۴۹۵)

حضرت زید اس وقت بچ تھے جبکہ ان کی حالت میں بھی سارے گھر کو، عزیزو

اقارب کو غلامی پر قربان کر دینا جس عظیم ولیل محبت کا پتادیتا ہے وہ ظاہر ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہداء کے درمیان دفن کر دیں اور بعض کہتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ میں نے کہا میں تو انہیں اپنے جھرے میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کروں گی۔ ابھی ہم اس اختلاف میں تھے کہ مجھ پر نیند غالب آگئی میں نے کسی کو یہ کہتے سن کہ محبوب کو محبوب کی طرف لے آؤ۔ جب میں بیدار ہوئی تو پتا چلا کہ تمام حاضرین نے اس آواز کو سن لیا تھا یہاں تک کہ مسجد میں موجود لوگوں نے بھی اس آواز کو گوش ہوش سے سننا۔

وفات سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے تابوت (جنازہ) کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روپہ انور کے پاس لا کر رکھ دینا اور السلام عليك يارسول الله کہہ کر عرض کرنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا ہے۔ اگر اجازت ہوئی تو دروازہ کھل جائے گا اور مجھے اندر لے جانا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کیا گیا تو ابھی وہ کلمات پایہ اختتم کونہ پہنچے تھے کہ پرده اٹھ گیا۔ اور آواز آئی کہ: ”حسیب کو حسیب کی طرف لے آؤ“۔ (شواهد النبوة، رکن سادس، ص ۲۰۰)

جائے غور ہے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ نہ جانتے تو ہرگز ایسی وصیت نہ فرماتے کہ روپہ اقدس کے سامنے میرا جنازہ رکھ کر اجازت طلب کی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے عملی جامہ پہنایا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عقیدہ تھا کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعد وصال بھی قبر انور میں زندہ اور صاحب اختیار و تصرف ہیں۔ الحمد لله عزوجل

شوق رفاقت: حضرت ربعیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کیلئے پانی لایا کرتا تھا اور دیگر خدمت بھی بجالا یا کرتا تھا ایک روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: سَل (ماگو) میں نے عرض کیا: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي السَّجَنِ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہشت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس کے علاوہ اور کچھ؟ حضرت ربعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرا مقصود تو وہی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کثرت سجدہ سے میری مذکر۔

(صحیح مسلم، کتاب الصلوة، باب فضل السجود، الحدیث ۴۸۹، ص ۲۵۲) مطلب یہ ہے کہ خود بھی اس مقام بلند کی شان پیدا کرو، میری عطا کے ناز پر کثرت عبادات سے غافل نہ ہو جاؤ۔

اشعة اللمعات میں اس حدیث کے تحت ہے:

”واز اطلاق سوال کہ فرمودہ سل بخواہ و تخصیص نہ کرد و بمطلوبی خاص معلوم می شود کہ کا رہمہ بدست همت و کرامت اوست صلی اللہ تعالیٰ علیہ و الہ و سلم هر چہ خواهدو هر کرا خواهد باذن پروردگار خود بدھد“

(اشعة اللمعات، کتاب الصلاة، باب السجود وفضله، ج ۱، ص ۴۲۵)

ترجمہ: سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و الہ و سلم نے فرمایا: کہ مانگو! اس میں کسی خاص مطلب کی تخصیص نہیں کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے کام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و الہ و سلم کے دست عزت وقت میں ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و الہ و سلم جو چاہیں جسے چاہیں اپنے پروردگار عزوجل کے اذن سے عطا فرمائیں۔

اللَّهُ أَعْزُزُهُ وَأَوْرُسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْهُ وَسَلَّمَ كَمْ كَمْ مُحْبَّتٌ: حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز میں دو پیر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و الہ و سلم کے دولت خانہ پر حاضر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و الہ و سلم تشریف فرمانہ تھے۔ میں نے خادم سے دریافت کیا اس نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ہیں میں وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و الہ و سلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و الہ و سلم بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی آدمی آپ کے پاس نہ تھا۔ مجھے اس وقت یہ گمان ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و الہ و سلم وحی کی حالت میں ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و الہ و سلم کو سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و الہ و سلم نے میرے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا تجھے کیا چیز یہاں لائی ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ عزوجل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و الہ و سلم کی محبت۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و الہ و سلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹھ جاء، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و الہ و سلم

کے پہلو میں بیٹھ گیا، نہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھتا اور نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کچھ فرماتے۔ میں تھوڑی دیر ٹھہر اکہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی چلتے ہوئے آئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا: تجھے کیا چیز یہاں لائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا۔ اللہ عزوجل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جا۔ وہ ایک بلند جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ویسا ہی فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔

پھر اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سات یا نو کے قریب سنگریزے لئے۔ ان سنگریزوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں تسبیح پڑھی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں شہد کی مکھی کے ماندا و از سنائی دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سنگریزوں کو زمین پر رکھ دیا اور وہ چپ ہو گئے۔

پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سنگریزے مجھے چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیئے ان سنگریزوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھی۔ یہاں تک کہ میں نے شہد کی مکھیوں کی طرح ان سے آوازنی، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر زمین پر رکھ دیئے وہ

چپ ہو گئے اور ویسے ہی سنگریزے بن گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیئے ان کے ہاتھ میں بھی انھوں نے تسبیح پڑھی جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پڑھی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے شہد کی مکھی کی مانند ان کی آواز سُنی پھر آپ نے زین پر رکھ دیئے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیئے ان کے ہاتھ میں بھی انھوں نے تسبیح پڑھی جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پڑھی تھی یہاں تک کہ میں نے شہد کی مکھی کی مانند ان کی آواز سُنی۔ پھر ان کو زین پر رکھ دیا گیا وہ چپ ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ نبوت کی خلافت کی شہادت ہے۔

(الخصائص الکبریٰ، ذکر معجزاته فی انواع الجمادات، باب تسبیح الحصی، ج ۲، ص ۱۲۴)

شوّق دیدار: جب حضرت مصعب بن عمير رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت اور اسلام کی تفسیر کر رہے تھے حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر سن رہے تھے اس دوران جب بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا تو ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شوق دیدار چمک اٹھتا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لئے وہ بے چین ہو جاتے۔ ایک بار ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا کس قدر اشتیاق ہے کہ سال جائے گا اور موسم جج آئے گا اور ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں گے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا: ابو عبد الرحمن! صبر کرو، دن جلد ہی گزر جائیں گے۔

ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی دید کے بغیر مجھے سکون میسر نہیں کب یہ دن گزریں گے، پھر وہ کچھ دیر خاموش رہے اور فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ کسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے میری ملاقات نہ ہو سکے اس لیے کیا آپ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا سراپا ہی بیان کر سکتے ہیں، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت سے بہرہ ور ہوئے ہیں۔ سبھی حاضرین نے بیک زبان کہا ابن مسلمہ تم نے ہمارے دل کی بات کہدی۔ ابن عمر! رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا سراپا بیان کیجئے۔

حضرت مصعب بن عمير رضی اللہ تعالیٰ عنہ قعدہ سے (دو زانو ہو کر) بیٹھ گئے، اپنا سر جھکایا، نظریں پیچی کیں جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا سراپا اپنے ذہن میں لارہے ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے رنگ میں سفیدی و سرخی کا حسین امترانج ہے، چشم ان مبارک بڑی ہی خوبصورت ہیں، بھویں ملی ہوئی ہیں، بال سیدھے ہیں گھنکریا لئے نہیں ہیں، داڑھی گھنی ہے، دونوں موٹڈھوں کے تیچ فاصلہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی گردان مبارک جیسے چاندی کی چھاگل، ہتھیلی اور قدم موٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جب چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اونچائی سے نیچے آرہے ہوں اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کسی چٹاں سے نکل پڑے ہوں، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کسی کی طرف رخ فرماتے تو مکمل طور پر متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے چہرہ مبارک پر

پیسینہ موتی کے مانند ہوتا ہے، نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پست قد ہیں نہ دراز قامت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کنڈھوں کے درمیان مہربنوت ہے۔ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لیکا یک دیکھتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے اور جو آشنا ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سچی اور سب سے زیادہ جرأت مند ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طرز تکلم سب سے سچا، ایغاء عہد میں سب سے پکے، سب سے زم طبع، اور ہن سہن میں سب سے اچھے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا کسی کو نہ پہلے دیکھا اور نہ ہی بعد میں۔

جس وقت حضرت مصعب بن عمير رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس جماعت پر سکوت چھایا ہوا تھا، وہ سبھی حضرات پوری توجہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس سر اپائے اقدس کو سماعت کر رہے تھے ابھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بیان مکمل بھی نہ کر سکے تھے کہ اہل محفل بیک زبان پکارا ٹھے۔

صلی اللہ علیک یار رسول اللہ

محبت و فدائیت: جب مدینہ طیبہ کے اندر اسلام سے وابستہ ہونے والوں کی تعداد خاصی بڑھ گئی قبیلہ اوس و خزر ج کے لوگ جو حق در جو حق اسلام قبول کرنے لگے تو اہل مدینہ نے اپنے ہادی و آقا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن مدینہ مقدسہ تشریف لانے کی دعوت دی اسکے بعد انصار کے لوگ بڑی بے چینی سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار کی گھر بیان گئے۔ اس وقت انکے شوق دیدار کا عالم

کیا تھا اسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ جس لمحہ یہ بشارت ملی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت استقبال کے لئے ”بنیۃ الوداع“ تک پہنچ گئے کہ کب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت زیبا سے انکی معراج ہونی والی ہے اور جس وقت ان حضرات نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا مرجب کی صدائوں سے پوری فضاء گونج اٹھی، ان استقبال کرنے والوں میں حضرت عبد اللہ بن انبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے یہ تو فور مسرت سے بے قابو ہو رہے تھے۔ یہی وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر اسلام کے ایک بہت بڑے دشمن ابو رافع سلام بن ابو الحقیق کو اس کے قلعے کے اندر گھس کر قتل کیا تھا۔

واقع کی تھوڑی تفصیل یوں ہے۔ سلام بن ابو الحقیق اللہ اور اس کے رسول عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ اس نے بن نفییر کے یہود یوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر برائیخنہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ صورت حال لائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دشمن دین کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت منتخب کی ان میں حضرت عبد اللہ بن انبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا اس دستہ کی قیادت حضرت عبد اللہ بن عتیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوپی گئی۔ یہ دستہ اس مہم کے لئے روانہ ہوا۔ رات میں چلتا اور دن میں کمین گا ہوں میں چھپا رہتا۔ تا آنکہ یہ دستہ سلام بن ابو الحقیق کے قلعہ کے اندر داخل ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، قلعہ کے سب لوگ سو گئے، سلام بن ابو الحقیق قلعہ کے ایک بالاخانہ پر سورہ تھا۔ نصف شب میں یہ لوگ آہستہ آہستہ اس تک پہنچنے کے لیے چل پڑے، جب اس

کے کمرے تک پہنچ اس کی بیوی جاگ گئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کو ہر اس کرنے کے لئے اس پر تلوار اٹھائی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی وصیت تھی کہ ابو رافع سلام کے علاوہ کسی کو قتل نہ کریں۔ وہ عورت خاموش ہو گئی اور تحریراتے ہوئے اپنی جگہ دبک گئی۔

دوسرے فدائی آگے بڑھے سخت تاریکی تھی ابو رافع کی صحیح جگہ کا پتا نہ چلتا تھا۔ فدا سیوں کی تلواریں چلنے لگیں لیکن اسکو کوئی خاص گہرا خشم نہ لگ سکا حضرت عبد اللہ بن انبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے ان کے سامنے ابو رافع تھا جو کہ چیخ و پکار کر رہا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے اس بدترین دشمن کو کیفر کردار تک پہنچادیا۔ جب ابو رافع کی ہلاکت کا یقین ہو چکا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ جماعت مسرت و شادمانی کے ساتھ مدینہ مقدسہ کے لئے روانہ ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ کی طرف نیزی سے بڑھ رہے تھے تاکہ اپنے سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو اس دشمن کی ہلاکت کی بشارة سنائیں۔ یہ قافلہ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے گفتگو فرمائے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ان کو اس عالم میں دیکھا کہ انکے چہرے آثار خوشی سے دمک رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے کہا: ”اَفْلَحَتِ الْوُجُوهُ“ یہ چہرے کامیاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے یہ کلمات کتنے عظیم ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس جماعت نے بھی بلا کسی تاخیر کہا: ”اَفْلَحَ وَجْهُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ“ آپ کا چہرہ مبارک کامیاب ہے ہاں ہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے ہی یہ کامرانی ہے، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی ہدایت و

رہنمائی نہ ہوتی تو ہم کامیاب نہ ہوتے۔

لوگ اس کامیابی سے پلٹنے والے قافلہ سے سلام بن ابوالحقیق کے قتل کی کیفیت دریافت کرنے کے لئے ان کے گرد جمع ہو گئے سارے ہی مجاہدین کہہ رہے تھے میری توارنے ابو رافع کا کام تمام کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرم رہے ہیں کہ اس شرف عظیم کو ہر شخص اپنے ہی حصے میں لینا چاہتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا پھر فرمایا: ہر شخص اپنی تواریخ میرے سامنے پیش کرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی تواریخوں کا جائزہ لیا اور انکی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: عبد اللہ بن انبیس کی توارنے اس کا کام تمام کیا ہے، اس میں اس کا اثر آب بھی ہے۔ (السیرۃ النبویۃ لابن ہشام، مقتل سلام بن ابی الحقيقة، ج ۴، ص ۲۳۵)

قبائل ہذیل خالد بن سفیان کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کیلئے مقام خلہ میں جمع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رأس الفتنۃ خالد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم مصمم فرمایا۔ اس مہم کے لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبد اللہ بن انبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا اور فرمایا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابن سفیان مجھ سے جنگ کرنے کیلئے لوگوں کو جمع کر رہا ہے، اور وہ اس وقت خلہ میں ہے تم وہاں جا کر اس کو قتل کرو۔

سپاہی نے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا لیکن اس مہم کا سر کرنا آسان نہ تھا۔ دشمن اپنے ہزاروں سپاہیوں کے پیچ میں ہے اور وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اب یہاں سوائے حرب فریب کے اور کوئی چارہ نہیں اور اس کیلئے بھی با تین بنائی ہوں گی۔ اور یہ چیز اسلام میں روانہ نہیں ناچار انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ

والله وسلم سے اس کی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ان کو اس کی چھوٹ دی کہ الحرب خدعاً جنگ دھوکہ ہے۔

حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواریخ مائل کئے ہوئے یہ مہم سر کرنے کے لئے نکل پڑے اور عصر کے وقت نخلہ پہنچ گئے وہاں انہوں نے دشمنوں کی زبردست بھیڑ دیکھی پھر اپنے نشانہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ خالد کو دیکھا کہ عورتوں کے جھنڈ میں ہے۔

حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنا منصوبہ مکمل کرنا چاہتے تھے مگر عصر کی نماز فوت ہونے کا بھی انھیں اندیشہ تھا۔ ایسے وقت میں انہوں نے دشمن کی طرف پیش

قدمی کرتے ہوئے ہی اشارہ سے نماز پڑھی اور خالد کے پاس پہنچ گئے۔ خالد نے ان سے پوچھا تم کون ہو حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرب ہی کا ایک آدمی ہوں۔ میں نے سنائے کہ تم نے ان (حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے اڑنے کا منصوبہ بنایا ہے تو میں بھی اسی کے لئے آیا ہوں۔ خالد نے کہا ہاں ہاں میرا بھی خیال ہے کہ

اب بہت جلد ہم مدینہ پر پڑھائی کر کے فتح حاصل کریں گے۔

خالد اپنی عورتوں سے صرف نظر کر کے حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے با�یں کرنے لگا اور حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذہن میں نشانہ فٹ کرنے لگے۔

حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز تکلم بڑا ہی خوب تھا۔ خالد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانوس اور مطمئن ہو گیا۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد سے با تین کر ہے ہیں اور موقع کی تاک میں ہیں۔ چنانچہ انھیں موقع ہاتھ آہی گیا۔ تواریخ میں نکالی اور خالد کا

سر قائم کردیا اسکا دھڑکن میں پر جا گرا اور ایک دھمک سی ہوئی۔ خالد کی عورتیں متوجہ ہوئیں تو کیا دیکھتی ہیں اس کا سر اسکتے تھے جدا پڑا ہے۔ اب کیا تھا وہ عورتیں جیچ پڑیں وہاں

کے سبھی لوگ خالد کی لاش کی طرف متوجہ ہوئے اور ادھر حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہاں سے دوڑ پڑے۔ اب جب خالد کے لوگ قاتل کی تلاش کر رہے ہیں تو قاتل کا پتا نہیں۔ ابھی اسے دفنا یا بھی نہ گیا تھا کہ اس کے گرد جمع ہونے والوں کا بادل چھٹنگا اور صبح تک پورا خانہ خالی ہو گیا۔

ادھر حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منشأ پورا کر دینے پر خوشی و مسرت سے لبریز ہے۔ دوڑتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آرہے ہیں۔ زمین سمت کیوں نہیں جاتی کہ فوراً اپنے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہلاکت دشمن کی بشارت سنادوں۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد بنوی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان تشریف فرماتھے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو آپ کی طرف مسکراتے ہوئے نظر اٹھائی اور ارشاد فرمایا: "فَلَحَ الْوَجْهُ" یہ چہرہ کامیاب ہے۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کامیاب ہے۔ میں نے اس دشمن کو قتل کر دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم نے سچ کہا۔

اس وقت حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار سنانے لگے۔

اقول له والسيف يعجم رأسه انا ابن انيس فارساً غير قعد

وقلت له خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبي محمد

وكنت اذا هم النبي لكافر سبقت اليه باللسان وباليد

(السيرة النبوية لابن هشام، غزوة عبد الله بن انيس، ج 4، ص 521)

”میں اس وقت کہہ رہا تھا جب توار اس کا سرچاٹ رہی تھی کہ میں ابن انيس

شہسوار ہوں کوئی اپا ہج نہیں ہوں۔“

”اور میں نے کہا مجھ جیسے دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر قائم رہنے والے صاحب مجد شخص کا ایک دارہ ہی کافی ہے۔“

”اور میرا حال تو یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کسی کافر کو انعام تک پہنچانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو میں اس کی طرف زبان سے اور ہاتھ سے سبقت کرتا ہوں۔“

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور فدائیت: حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہماری ایک طرف تو مکہ کے کافروں اور انکے ساتھ دوسرے کافروں کے بہت سے گروہ جوہم پر چڑھائی کرنے آئے تھے اور جملہ کے لئے تیار تھے، اور دوسری طرف خود مدینہ منورہ میں بنو قریظہ کے یہود ہماری دشمنی پر تسلی ہوئے تھے جن سے ہر وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مدینہ کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے اہل و عیال کو بالکل ختم نہ کر دیں، ہم لوگ مدینہ منورہ سے باہر لڑائی کے سلسلے میں پڑے ہوئے تھے منافقوں کی جماعت گھر کے تھا اور خالی ہونے کا بہانہ کر کے اجازت لیکر اپنے گھروں کو واپس جاری تھی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہر اجازت مانگنے والے کو اجازت مرحمت فرمادیتے تھے۔

اور اس دوران میں ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنی آئی نہ اس کے بعد۔ اندھیرا اس قدر زیادہ کہ آدمی کو پاس والا آدمی تو کیا اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا اور ہوا اتنی سخت کہ اس کا شور بھلی کی مرح گرج رہا تھا۔ منافقین اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ہم تین سو کا مجمع اسی جگہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ایک ایک کا حال دریافت فرم رہے تھے، اور اس اندھیرے میں ہر طرف تحقیقات

فرما رہے تھے میں میرے پاس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے واسطے کوئی تھیار تھا نہ سردی سے بچاؤ کے لئے کوئی کپڑا، صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی جو اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی اور وہ بھی میرے نہیں اہلیہ کی تھی، اس کو اوڑھنے گھٹنوں کے بل زمین سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا حدیفہ، مگر مجھ سے سردی کے مارے اٹھا بھی نہ گیا اور شرم کے مارے زمین سے چھٹ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو، اور دشمنوں کے جھٹے میں جا کر ان کی خبر لا، کیا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت گھبراہٹ اور خوف اور سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ خستہ حال تھا مگر تعییل ارشاد میں اٹھ کر فوراً چل دیا جب میں جانے لگا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی اللَّهُمَّ احْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَائِلِهِ وَمِنْ فَوْقَهُ وَمِنْ تَحْتِهِ اللَّهُ تَوَسَّلُ إِلَيْهِ مَنْ يَرْجُهُ نِعَمًا

سے اوپر سے اور نیچے سے۔ حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ گویا مجھ سے خوف، سردی بالکل جاتی رہی اور ہر ہر قدم پر معلوم ہو رہا تھا کہ گویا گرمی میں چل رہا ہوں۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چلتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی حرکت نہ کرنا چپ چاپ دیکھ کر چل آؤ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا آگ جل رہی ہے اور لوگ اس میں سینک رہے ہیں ایک شخص آگ پر ہاتھ سینکتا ہے اور کوکھ پر پھیرتا ہے اور ہر طرف سے واپس چل دو، واپس چل دو کی صدائیں آ رہی ہیں۔ ہر شخص اپنے قبیلہ والوں کو آواز دیکر رہا ہے کہ واپس چلو اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف

سے پھر ان کے خیموں پر برس رہے تھے خیموں کی رسیاں ٹوٹتی جاتی تھیں اور گھوڑے وغیرہ جانور ہلاک ہو رہے تھے ابوسفیان جو گویا اس وقت ساری جماعتوں کا سردار بن رہا تھا آگ پر سینک رہا تھا میرے دل میں آیا کہ موقع اچھا ہے اس کا کام تمام کر ڈالوں ترکش سے تیر نکال کر کمان میں رکھ بھی دیا مگر پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ کوئی حرکت نہ کرنا دیکھ کر چلے آنا س لئے میں نے تیرکش میں رکھا اس کو شبہ ہو گیا کہنے لگا تم میں کوئی جاسوس ہے، ہر شخص نے اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑا میں نے جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو کون؟ اس نے کہا تو مجھے نہیں جانتا فلاں ہوں۔ میں وہاں سے واپس آیا جب آدھے راستے پر تھا تو تقریباً میں سور مجھے عمameہ باندھے ہوئے ملے انہوں نے کہا کہ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دینا کہ اللہ عزوجل نے دشمنوں کا انتظام کر دیا بے فکر ہیں۔

میں واپس پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے تھے یہ نمیشہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف توجہ فرماتے نماز سے فراغت پر میں نے وہاں کا جو منتظر دیکھا عرض کیا۔ جاسوس کا قصہ سن کر دنداں مبارک چمکنے لگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں مبارک کے قریب لٹا دیا اور اپنی چادر کا ذرا سا حصہ مجھ پر ڈال دیا میں نے اپنے سینے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تنوؤں سے چمٹالیا۔

(مدارج النبوت، قسم سوم، باب پنجم از هجرت آنحضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم، ج ۲، ۱۷۳ بتصریف۔ دلائل النبوة (متترجم)، لامام ابو نعیم احمد بن عبد الله اصفهانی،

باب غزوہ خندق کے معجزات ص ۴۴۷، بتصریف)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عشق ووفا کی امتحان گاہ میں

یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے مسلمان ہونا

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال: ابتدائے اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حتی الواسع مخفی رکھتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی طرف سے بھی، اس خیال سے کہ ان کو کافروں سے اذیت نہ پہنچے، انھا کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد امت ایس تک پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کی درخواست کی اور چاہا کہ کھلم کھلا علی الاعلان تبلیغ اسلام کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اول انکار فرمایا مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر قبول فرمایا اور ان سب حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لیکر مسجد حرم شریف میں تشریف لے گئے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع کیا، یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن اسلام لائے ہیں اور اس کے تین دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے ہیں۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باوجود یہ کمکر مہ میں عام طور پر ان کی عظمت و شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہلہمان ہو گئے۔ پہچانے نہ جاتے تھے، جتوں سے مارا پاؤں میں روندا جونہ کرنا تھا سب کچھ ہی کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش

ہو گئے، بتویم یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو دہاں سے اٹھا کر لائے۔

سب کو یقین ہو چلا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحشیانہ جملہ سے زندہ نہ تھے سکیں گے بتویم مسجد میں آئے اور اعلان کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر حدادث میں وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدله میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے عتبہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے میں بہت زیادہ بدرجتی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی رہی باوجود آوازیں دینے کے بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلے الفاظ یہ تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں کی طرف سے اس پر بہت ملامت ہوئی کہ ان ہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت آئی اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہی کا جذبہ اور انہی کے لئے۔

لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے، بدالی بھی تھی، اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان ہے کہ بولنے کی نوبت آئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام خیر سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کیلئے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پر اصرار کیا مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی ایک صدائی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر کیا گزری؟ انکی والدہ نے کہا کہ مجھے تو خبر نہیں کیا حال ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ام جمیل (حضرت عمر کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے پاس جا کر دریافت کرو کہ کیا حال ہے؟ وہ بیچاری بیٹی کی اس مظلومانہ حالت

کی بیت ابانہ درخواست پوری کرنے کیلئے ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے مطابق اس وقت اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ فرمائے لگیں میں کیا جانوں کون محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) اور کون ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا اگر تو کہے تو میں چل کر اسکی حالت دیکھوں ام خیر نے قبول کر لیا ان کے ساتھ گئیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر محلہ کے سرکیں بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کئے کی سزا دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سُن رہی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں انہوں نے عرض کیا کہ ارم کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا عزوجل کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی زیارت نہ کرلوں۔ ان کی والدہ کو تو بیقراری تھی کہ وہ کچھ کھالیں اور انہوں نے قسم کھالی کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی زیارت نہ کرلوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لئے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے۔ مبادا کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکیر

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارم کے گھر پہنچیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی لپٹ کروئے۔ اور مسلمان بھی رونے لگے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی یہ میری والدہ ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے ہدایت کی دعا فرمادیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمادیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی ترغیب دی وہ بھی اس وقت مسلمان ہو گئیں۔ (البداية والنهاية، ج ۳، ص ۳۰)

حضرت ابوذر رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اسلام: حضرت ابوذر رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جن کا شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جلیل القدر زادبودوں اور عظیم علماء میں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم کے حامل ہیں جن سے لوگ عاجز ہیں مگر انہوں نے اسے محفوظ رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پہلی پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے لئے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وہی آتی ہے اور آسمان کی خبر ہیں آتی ہیں اسکے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔

وہ مکہ مکرہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ خیال کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ ہے اور نہ کاہنوں کی خبر ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مجمل بات سے تشغیل نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ

والله سلم کو پہچانتے نہ تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا، شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ ایک پر دیسی مسافر ہے، مسافروں، غربیوں، پر دیسیوں کی خبر گیری اور ان کی ضرورت کا پورا کرنا ان حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت و طبیعت تھی، اس لئے ان کو اپنے گھر لے آئے میزبانی فرمائی۔ لیکن ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ بھی کہ کون ہوا اور کیوں آئے، مسافر نے بھی کچھ ظاہرنہ کیا، صبح کو پھر مسجد میں آگئے تا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ سلم کے متعلق کسی سے کچھ دریافت کریں، لیکن کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ سلم کے متعلق کچھ بتاتا۔ دوسری شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ پر دیسی مسافر ہے بظاہر جس کیلئے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی اس لئے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلا یا سلا یا مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہیں آئی۔

تیسرا رات کو پھر بھی صورت ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کام کیلئے آئے ہو کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اور عہد و پیمان کے بعد ان کو غرض بتایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: وہ بے شک اللہ عزوجل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ سلم ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چنان، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لئے راستہ میں اگر مجھ سے کوئی ایسا شخص ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں استجاء کے لیے رک جاؤں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے چنانا میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ سلم کی خدمت میں پہنچ وہاں

جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو بھی ظاہرنہ کرنا چیکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے نقش میں چلا کر پڑھوں گا، چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ پڑھا۔ پھر کیا تھا چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخم کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے ان کے اوپر بچانے کے لئے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کیا ظلم کرتے ہو یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائیگا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے اس لئے ان کو چھوڑ دیا دوسرا دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر با آواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمہ کو سننے کی تاب نہ لاسکتے تھے۔ اس لئے ان پر ٹوٹ پڑے، دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ (صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب قصہ اسلام ابی ذر الغفاری، الحدیث: ۳۵۲۲، ج ۲، ص ۴۸۰ و کتاب مناقب الانصار، باب اسلام ابی ذر، الحدیث: ۳۸۶۱، ج ۲، ص ۵۷۶)

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو ش اطہار غلبہ حق کے ولولہ کی بنا پر تھا اور سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منع اطہار شفقت کی بنیاد پر، لیکن حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب خود مصائب چھیل رہے ہیں تو ہمیں چیچھے رہنے کی کیا ضرورت؟ اس لئے اپنی راحت پر سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع عمل کو ترجیح دی اور پھر اطاعت حق میں ہمیشہ سرگرم رہے۔

حضرت عمار اور ان کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم : حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ مکہ کی سخت گرم اور ریتیلی زمین میں ان کو عذاب دیا جاتا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرف گز رہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت فرماتے، آخر ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت تکلیف میں وفات پا گئے کہ ظالموں نے مرنے تک چین نہ لیئے دیا اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی سخت تکالیف اٹھائیں ابوجہل نے ان کی ناف کے نیچے برچھا مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں مگر اسلام سے نہ ہیں حالانکہ بڑھی تھیں ضعیف تھیں مگر اس بد نصیب نے کسی چیز کا خیال نہیں کیا۔

اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان کی ہے اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھارت فرم کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایک سایہ دار مکان بنانا چاہئے جس میں تشریف رکھا کریں اور دو پہر کو آرام فرما لیا کریں اور نماز بھی سایہ میں پڑھ لیا کریں، تو

قا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول پھر جمع کئے اور پھر مسجد بنائی۔ لڑائی میں نہایت جوش سے شریک ہوتے تھے ایک مرتبہ وجد میں آ کر کہنے لگے اب جا کر دوستوں سے ملیں گے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا اس نے دودھ سامنے کیا اس کو پیا اور پی کر کہنے لگے میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے سنا کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پئے گا اس کے بعد شہید ہو گئے، اس وقت چورانوے برس کی عمر تھی بعض نے ایک آدھ سال کم بتلائی ہے۔ (ماخوذ من اسد الغابۃ، ج ۴، ص ۱۴۱)

ان کی والدہ حضرت سمیہ بنت حبیباً طریقی اللہ تعالیٰ عنہا مظلومانہ شہادت کے علاوہ اور بھی سختیاں جھیل چکی ہیں ان کو گرمی کے وقت سخت دھوپ میں نکریوں پر ڈالا جاتا، لو ہے کی زرد پہننا کر دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تاکہ دھوپ کی گرمی سے لوہا ٹپنے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوتا تو صبر کی تلقین اور جنت کا وعدہ فرماتے یہاں تک کہ سب سے بڑے دشمن اسلام ابو جہل کے ہاتھوں انکی شہادت ہوئی۔

رضی اللہ عنہا وارضاها عننا۔ (اسد الغابۃ، ج ۷، ص ۱۶۷)

حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام: حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم حضرت ارقم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف فرماتھے کہ یہ دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ حاضر خدمت ہوئے اور مکان کے دروازے پر اتفاقیہ اکٹھے ہو گئے ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض یعنی اسلام لانا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے فیض سے مستفیض ہونا دونوں کا مقصد تھا۔ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد

جو کچھ اس زمانہ میں قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آتا تھا وہ پیش آیا۔ ہر طرح ستائے گئے۔ تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ آخر کار ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارانہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کریں۔

اس لئے جس کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا تھا اسکو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکالیف سے نجات پانے سکے۔ چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا، اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لئے گئی انھوں نے اپنا ترکش سنبھالا جس میں تیر تھے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم کو معلوم ہے کہ میں تم سے زیادہ تیر انداز ہوں ایک بھی تیر میرے پاس باقی رہے گا تو تم لوگ مجھ تک آنہیں سکو گے اور جب ایک بھی تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے اس کے بعد جو تم سے ہو سکے کرنا۔ اس لئے اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلم میں اپنے مال کا پتا بتا سکتا ہوں جو مکہ میں ہے اور دو باندیاں بھی ہیں وہ تم سب لے لو! اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال دیکر جان چھڑائی اس بارہ میں آیت پاک نازل ہوئی۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ أَبْتَغَاءَ تَرْجِمَةَ كَنزِ الْأَيْمَانِ: اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا مَرْضَاتِ اللَّهِ طَوَالَ اللَّهُ رَءُوفٌ ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں اور اللہ بندوں پر بِالْعِبَادِ (پ ۲، البقرة: ۲۰۷)

حضرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قبائل تشریف فرماتھے صورت دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ نفع کی تجارت کی۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کھجور تناول فرماتے تھے اور میری آنکھ دکھرہی تھی ساتھ کھانے لگا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ تو دکھرہی ہے اور کھجور میں لکھاتے ہو۔ میں نے عرض کیا:

حضرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو درست ہے۔ حضرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب سُکرہنْس پڑے۔ (اسد الغابة، ج ۳، ص ۳۹)

حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی خرچ کرنے والے تھے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچی کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ناجائز کہیں خرچ نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو انھیں کو جنازہ کی نماز پڑھانے کی وصیت فرمائی تھی۔ (اسد الغابة، ج ۳، ص ۴۱)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور بہن: فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں؟ قبل اسلام یہ بھی نمایاں تھے اور اسلام و اہل اسلام کی عداوت میں سرگرم بہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے درپے رہتے تھے ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو قتل کر دے؟ عمر نے کہا کہ میں کروں گا! لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو، عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیئے۔ اسی فکر میں جاری ہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ بنو زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بعض نے حضرت نعیم کا نام لکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے قتل کی فکر میں ہوں۔ (نحوذ باللہ عزوجل) سعد نے کہا۔ بنوہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے مطمئن ہو گئے وہ تم کو بدله میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین (یعنی مسلمان) ہو گیا ہے لا پہلے تھی کوئی مٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنجھا لی

دونوں طرف سے تواریخنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی توجیہ لے تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔

یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت

خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اڑکھلوائی ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلدی سے رہے تھے عمر نے کو اڑکھلوائی ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے لیکن وہ صحیفہ جلدی میں باہر رہ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھیں۔

ہمیشہ نے کو اڑکھلواعمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسکو بہن کے سر پر مارا جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بد دین ہو گئی اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا۔ بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہوتا تو؟ یہ سننا تھا کہ ان کی دارالحکم پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا لٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک طما نچھا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھیں کہنے لگیں عمر! ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔

اس کے بعد عمر کی نظر اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصہ کا

جو شدید بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی آرہی تھی، کہنے لگے اچھا مجھے دکھلاویہ کیا ہے بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے ہر چند کوشش کی مگر وہ بے خصوص اور بے غسل کے دینے کو

تیار نہ ہوئیں۔ عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا اس پر سورہ طہ لکھی ہوئی تھی اس کو پڑھنا شروع کیا اور ”إِنَّمَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي لَا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۝“ (ب ۶، طہ: ۱۴) تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی کہنے لگا چھا مجھے بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے پاس لے چلو۔ یہ الفاظ سنکر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر! تمہیں خوبخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنجشنبہ (بدھ) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے دعائماً تھی کہ یا اللہ! عمر، یا ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہواں سے اسلام کو قوت عطا فرمائی (یہ دونوں قوت میں مشہور تھے) معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی دعائتمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔

(تاریخ الخلفاء، فصل فی الاخبار الواردة فی اسلامہ، ص ۸۷)

حضرت زینب بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہجرت اور وفات:

دو ہجہاں کے سردار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اعلانِ نبوت سے دس سال پہلے جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی عمر شریف ۳۰ برس کی تھی پیدا ہوئیں اور خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ریبع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے ساتھ نہ جاسکیں ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کیلئے فدیے ارسال کئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کیلئے مال بھیجا جس میں وہ بار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے

جہیز میں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد تازہ ہو گئی آبدیدہ ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے یہ قرار پایا کہ ابوالعاص کو پلافدیہ چھوڑ دیا جائے اس شرط پر کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ طبیہ بھیج دیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے دو آدمی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لینے کے لیے ساتھ کر دیئے کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائیں اور ابوالعاص حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان تک پہنچوادیں۔

چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دیوار کنانہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر چلے، آپ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئیں، لفڑا کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولہ ہو گئے اور ایک جماعت مراجحت کے لئے پہنچ گئی۔ جس میں ہبتار بن اسود جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پچاڑا بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھائی ہوا وہ اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا ان دونوں میں سے کسی نے، اور اکثر نے ہبتار ہی کو لکھا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نیزہ مارا جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گریں چونکہ حاملہ تھیں اس وجہ سے پیٹ کا بچہ بھی ضائع ہوا۔ کنانہ نے تیروں سے مقابلہ کیا ابوسفیان نے ان سے کہا کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی بیٹی اور اس طرح علی الاعلان چلی جائے یہ گوارنیں۔ اس وقت واپس چلو پھر چکپے سے بھیج دینا۔

کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ دو ایک روز بعد پھر روانہ کیا حضرت زینب کا یہ خم کئی سال تک رہا اور کئی سال تک اس میں بیمار رہ کر ۸۷ھ میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہا وارضا ہاما۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری سب سے

اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔

(الطبقات الکبریٰ لابن سعد، ذکر بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج ۸، ص ۲۶-۲۷)

و سیرۃ التبویہ لابن ہشام، خروج زینب الی المدینۃ، ج ۱، ص ۵۷۶)

حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملی ہوئی پیشہ: امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشہ نظر آئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پوری پشت مبارک میں سفید سفید زخموں کے نشان ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ! یہ تمہاری پیشہ میں زخموں کے نشان کیسے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان زخموں کی کیا خبر؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ پنگی تواریکر حضور حمزة للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا سر کا طنے کے لئے دوڑتے پھرتے تھے۔ اس وقت ہم نے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا چراغ اپنے دل میں جلا یا اور مسلمان ہوئے۔ اس وقت کفار مکنے مجھ کو آگ کے جلتے ہوئے کوئوں پر پیشہ کے بل اٹادیا میری پیشہ سے اتنی چربی پکھلی کہ کوئے بھجن گئے اور میں کھنڈوں بے ہوش رہا مگر رب کعبہ کی قسم! کہ جب مجھے ہوش آیا تو سب سے پہلے زبان سے کلمہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نکلا۔**

امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبۃ سنکر آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا: اے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ! کرتنا اٹھاؤ! میں تمہاری اس پیشہ کی زیارت کروں گا۔ اللہ اللہ! یہ پیشہ کتنی مبارک و مقدس ہے جو محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بدولت آگ میں جلائی گئی ہے۔

(الطبقات الکبریٰ لابن سعد، خباب بن الارت، ج ۳، ص ۱۲۳)

حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے کوئلوں پر: اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے چوب اور کوڑوں کی مار سے کفار نے نڈھال کر دیا۔ پھر آگ کے دیکھتے ہوئے کوئلوں پر پیٹھ کے بل لٹادیا۔ مگر یہ استقامت کا پہاڑ بن کر اسلام پر ثابت قدم رہے۔ اس حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزرے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارا، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مصیبت دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل صدموں سے چور چور ہو گیا اور فرمایا:

يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدَادَ وَ سَلَّمًا عَلَى عَمَّارٍ كَمَا كُنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

یعنی اے آگ! تو عمار پر اس طرح ٹھنڈک اور سلامتی بن جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی تھی۔ (الطبقات الکبریٰ لابن سعد، عمار بن یاسر، ج ۳، ص ۱۸۸) رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں پر اپنادست شفقت پھیرتے ہوئے فرماتے کہ ”عمار طیب و مطیب“ یعنی عمار پاکیزہ اور خوشبودار ہے۔

ہجرت جبše اور شعبابی طالب: مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار سے جب تکالیف پہنچتی ہی رہیں اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس بات کی اجازت مرحمت فرمادی کہ وہ یہاں سے دوسرا جگہ چلے جائیں۔ بہت سے حضرات نے جبše کی طرف ہجرت فرمائی۔ جبše کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت

مسلمان نہ ہوئے تھے مگر ان کے رحمدال اور منصف مزاج ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ اعلانِ نبوت کے پانچویں برسِ رجب کے مہینہ میں پہلی جماعت کے گیارہ یا بارہ مرد اور چار چار یا پانچ عورتوں نے جب شہر کی ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جاسکیں، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن کی طرف لوٹے۔ لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور ایذ ارسانی میں مصروف ہیں تو ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ جب شہر کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔

اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے (جو مرد اور ۱۸ عورتیں بتائی جاتی ہے) متفرق طور پر ہجرت کی اور یہ جب شہر کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دونوں ہجرتیں کیں، اور بعض نے ایک۔ کفار نے جب دیکھا یہ لوگ جب شہر میں چین کی زندگی بس رکرنے لگے تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سے تحائف کے ساتھ نجاشی شاہ جب شہر کے پاس ایک وفد بھیجا جو بادشاہ کے لئے بہت سے تحفے لے کر گیا۔ اور اس کے خواص اور پادریوں کیلئے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر پادریوں اور حکام سے ملا اور ہدیے دیکران سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو تجدہ کیا اور پھر تھنے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی اور رشوت لینے والے حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ! ہماری قوم کے چند بیوقوف اڑکے اپنے ندی میں دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے جسکو

ہم جانتے ہیں اور نہ آپ جانتے ہیں، آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفائے مکہ نے اور ان کے باپ پچانے اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ انکو واپس لا سئیں آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے جواب دیا جمن لوگوں نے میری پناہ لی ہے بغیر تحقیق ان کو حوالے نہیں کر سکتا ان سے بلا کر تحقیق کروں اگر یہ صحیح ہوا تو حوالے کر دوں گا۔

چنانچہ مسلمانوں کو بلا یا گیا۔ مسلمان بہت پریشان ہوئے کیا کریں مگر اللہ عز وجل کے فضل نے مد کی اور ہمت سے یہ طے کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف بات کہنا چاہیے بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز وجل کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا: ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے نہ اللہ عز وجل کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں علیہم السلام سے واقف تھے۔ پھر وہ کو پوچھتے تھے۔ مردار کھاتے تھے۔ برے کام کرتے تھے رشتہ ناطے توڑتے تھے، ہم میں کا قوی ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا، ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ عز وجل نے ایک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جس کے نسب، جس کی سچائی، اور امانت داری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلا یا اور پھر اور بتوں کے پوچھنے سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو اپنے کام کرنے کا حکم دیا۔ نماز، روزہ، صدقہ خیرات کا حکم دیا اور اپنے اخلاقی تعلیم کے زنا، بد کاری، جھوٹ بولنا، تیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برعے

اعمال سے منع فرمایا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی جس پر ہماری قوم دشمن بن گئی اور ہم کو ہر طرح ستایا ہم لوگ مجبور ہو کر تمھاری پناہ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے ارشاد سے آئے ہیں۔

بادشاہ نے کہا جو قرآن تمھارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ کچھ ہمیں سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی اول کی آیتیں پڑھیں جسکو سنکر بادشاہ بھی رو دیا اور ان کے پادری جو کثرت سے موجود تھے سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا خدا عزوجل کی قسم! یہ کلام اور جو کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیکر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمھارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانی پڑی۔ آپس میں صلاح کی، ایک شخص نے کہا کہ کل ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑی کاٹ دے، ساتھیوں نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہتے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے ہیں مگر پھر بھی ہمارے رشتہ دار ہیں مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرا دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کو اللہ عزوجل کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بدلایا۔

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور زیادہ پریشانی ہوئی، بہر حال گئے۔ بادشاہ نے پوچھا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ وہ روح اللہ ہیں اور کلمۃ اللہ ہیں جسکو خدا عزوجل نے کنواری اور پاک مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسکے سوا کچھ نہیں کہتے، پادری لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے بھاشی نے کہا تم جو چاہو کہو۔ اسکے بعد بھاشی نے وفد مکہ کے تھنے واپس کر دیئے اور مسلمانوں سے کہا تم امن سے ہو جو تمھیں ستائے اس کوتاوان دینا پڑے گا اور اس کا اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اسکو تاوان دینا ہو گا۔

(السیرۃ النبویۃ، ذکر الہجرۃ الاولی، ج ۱، ص ۳۰، ارسال القریش الی الحبشه، ج ۱، ص ۳۱۰)

اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو

ذلت سے واپس آنا پڑا۔ اس واقعہ سے کفار کا غصہ اور بھی بڑھ گیا، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے نے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا لہذا ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ ان لوگوں کا ان سے ملنا جلتا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بچے۔ اس لئے سردار ان مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب حکم خلماحمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو قتل کر دیا جائے لیکن قتل کرنا بھی آسان کام نہ تھا اس لئے کہ بنوہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقہ کے لوگ شمار ہوتے تھے ان میں اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔

اس لئے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنوہاشم اور بنو عبدالمطلب کا بائیکاٹ کیا جائے۔ نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے ہمارے حوالے نہ کر دیں یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا

بلکہ کیم محروم کے نبوی کو ایک معاهدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور اس معاهدہ کی وجہ سے تین برس تک یہ حضرات دو پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سامان غلہ وغیرہ جوان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقہ گزرنے لگے اور عورتیں اور بچے بھوک سے بیتاب ہو کر روتے اور چلاتے اور ان کے اعزہ کو اپنی بھوک اور تکالیف سے زیادہ ان بچوں کی تکالیف ستائیں۔

آخر تین برس کے بعد وہ صحیفہ دیمک کی نذر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ تین برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزر رہا اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشقتیں گزری ہوں گی لیکن اسکے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر مجھے رہے بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے۔

(شرح العلامہ الزرقانی، دخول الشعب و خبر الصحیفة، ج ۲، ص ۱۲ - السیرۃ النبویة لابن هشام، خبر الصحیفة، ج ۲، ص ۳۲۵)

حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے زن و فرزند: حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الہجرتین ہیں۔ پہلے جب شہ کو ہجرت کی پھر وہاں سے واپس ہو کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے وقت انہوں نے اپنی زوجہ اور اکلوتے بیٹی سلمہ کو اونٹ پر بٹھایا اور خود کمکل پکڑ کر روانہ ہوئے۔ ان کے میکے والے خاندان

بِوْمِيْرِہ کے لوگ آگئے اور کہا کہ خبردار! اے ابو سلمہ! تم خود جاسکتے ہو مگر اپنی لڑکی ام سلمہ کو ہرگز تمہارے ساتھ مدینہ نہیں جانے دیں گے اور زبردستی ظالموں نے ام سلمہ اور بچے سلمہ کو اونٹ سے اتار لیا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بیوی اور بچے کی محبت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت سے روک لے گی۔ مگر وہ رے! محبت رسول کا جذبہ کہ بیوی اور بچے کی جدائی سے کلیج شق ہو رہا تھا مگر قدم نہیں ڈگم گئے اور بیوی بچے کو خدا حافظ کہہ کر اسکیلے مدینے چلے گئے۔

پھر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے بنی عبد الاسد نے بچے سلمہ کو یہ کہہ کر بنی مغیرہ سے چھین لیا کہ لڑکی تمہاری ہے مگر بچہ ہمارے خاندان کا ہے۔ اس طرح بنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر اور لخت جگر دنوں سے جدا ہو گئیں اور ایک سال تک شوہر اور بچے کے فراق میں روتی رہیں۔ بالآخر ان کے چچازاد بھائی نے سب کو سمجھا بجا کر راضی کر لیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بچے کو لے کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی جائے۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جذبہ ہجرت دیکھنے کے بچے کو لے کرتہا مدینہ روانہ ہو گئیں۔ تعمیم کے پاس عثمان بن طلحہ ملے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر نہایت شریف انسان اور ابو سلمہ کے دوست تھے۔ پوچھا تم اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا مدینہ، پوچھا تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ہمارے ساتھ اللہ عزوجل کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں۔ عثمان بن طلحہ کہنے لگے یہ غیر ممکن ہے تم ایک شریف کی بیوی ہو کرتہا اتنا مbasفر کرو۔ خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔

راتے میں اونٹ پر سامان لا دکر اونٹ کو بٹھادیتے اور خود کسی درخت کی آڑ میں

چھپ جاتے۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوار ہو جاتی تھیں تو یہ اونٹ کی نیل پکڑ کر چل دیتے تھے۔ اس طرح بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ منورہ اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئیں۔ پھر جب ۲۷ھ میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں زخمی ہو کر شہید ہو گئے تو حضور رحمۃ للعالیمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور ان کو امت مسلمہ کی مادر مقدس ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاها عننا۔

(اسد الغابة، ام سلمة بنت أبي أمية، ج ۷، ص ۳۷۱)

نوط: سفر ہجرت ہر ایک پر فرض تھا، رفاقت حرم یا شوہر کی شرط بھی نہ تھی۔ اور آیت حجاب اس وقت ابھی نازل نہ ہوئی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سفر پر کوئی اشکال نہیں۔

عشق ووفا کا عجیب منظر: رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ایک بار چھ یادوں آدمیوں کی جماعت اہل مکہ کی خبر لانے کیلئے بھیجی۔ راستے میں بنو حیان کے دوس آدمیوں سے مقابلہ ہوا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں نے احمد میں اپنے مقتول کافر عزیزوں کے جوش انتقام میں ان حضرات کو فریب سے اپنے یہاں بلا�ا۔ سلاف نامی ایک عورت جس کے دوڑ کے احمد میں مارے گئے تھے اس نے منت مانی تھی کہ اگر میرے بیٹوں کے قاتل عاصم کا سر ہاتھ میں آجائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جو عاصم کا سر لائے اسے سوانٹ انعام دوں گی۔

سفیان بن خالد نے سوانٹوں کی طمع میں قبیلہ عضل وقارہ کے چند آدمیوں کو مدینہ

منورہ بھیجا۔ انہوں نے وہاں اپنے کو مسلمان ظاہر کیا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے کہہ کر چند حضرات کی جماعت اپنے یہاں تبلیغ دین کی غرض بتا کر ساتھ لائے جن میں حضرت عاصم حضرت خیب، حضرت زید بن الدّین، حضرت عبد اللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ راستے میں یجرا کر بعدہ دی کی اور دوسوآدمیوں کو مقابلہ کیلئے بلا لیا جن میں سوآدمی مشہور تیر انداز تھے۔

دس یا چھ بزرگوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ مختصر جماعت دشمنوں کی بد نیتی دیکھ کر فرد فرد نامی ایک پہاڑی پر چڑھ گئی۔ کفار نے کہاں ہم تمھیں قتل نہیں کرنا چاہتے۔ صرف اہل مکہ سے تمہارے بد لے کچھ مال لینا چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ مگر انہوں نے کہا ہم کافروں کے عہد میں آنا نہیں چاہتے اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا: تم سے دھوکا کیا گیا مگر کھبرانے کی بات نہیں شہادت کو غنیمت سمجھو تو ہمارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو توارے مقابلہ کیا۔ دشمنوں کا جمیع کشیر تھا آخر شہید ہو گئے اور دعا کی، یا اللہ عزوجل! اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو ہمارے حال سے آگاہ فرمادینا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو اسی وقت اس واقعے کا علم ہو گیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سن چکے تھے کہ سلافہ نے میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت مانی ہے اسلئے مرتب وقت دعا کی، یا اللہ عزوجل! میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے تو ہی اس کا محافظ ہے۔ چنانچہ شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کا ٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا اور بعض روایتوں میں ہے کہ بھڑوں کا ایک غول بیٹھ ڈیا۔

جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کا خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گی تو سرکاٹ لیں گے مگر رات کو بارش کی ایک رو آئی اور ان کی نعش کو بہا کر لے گئی اس طرح سات آدمی یا تین آدمی شہید ہو گئے۔ غرض تین باقی رہ گئے۔ حضرت خبیب، اور زید بن الدّینہ اور عبد اللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہدو پیمان کیا کہ تم نیچے آجائو ہم تم سے بعد عہدی نہ کریں گے یہ تینوں حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم نیچے اتر آئے اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تانٹ اتار کر ان کی مشکلیں باندھیں۔

حضرت عبد اللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی بعد عہدی ہے میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤ نگاں شہید ہونے والوں کی افتادا ہی مجھے پسند ہے انہوں نے زبردستی ان کو چھینا چاہا مگر یہ نہ ملے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف دو حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہماں کے ساتھ رہے جن کو لیجا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن الدّینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو صفوان بن امیہ نے پیچاں اونٹوں کے بد لے میں خریدا کہ اپنے باپ امیہ کے بد لے قتل کر دے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ساتھ بھیج دیا کہ قتل کر دیے جائیں۔

حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لئے حرم سے باہر لے گئے تو اس کا تماشا دیکھنے کے لئے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے جن میں ابوسفیان بھی تھے (جواب تک اسلام نہ لائے تھے) ابوسفیان نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا:

”اے زید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! میں تم کو خدا عزوجل کی قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس بجائے تمہارے، محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) ہوں جن کو ہم قتل کر دیں اور تم آرام سے اپنے اہل میں بیٹھو،“

حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: اللہ عزوجل کی قسم! میں پسند نہیں کرتا کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اس وقت جس مکان میں تشریف رکھتے ہیں ان کو ایک کانٹا لگنے کی تکلیف بھی ہوا رہیں آرام سے اپنے اہل میں بیٹھا رہوں۔“

یہ سنکر ابوسفیان نے کہا: ”میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ دوسرا رسول سے ایسی محبت رکھتا ہو جیسا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رکھتے ہیں۔ اسکے غلام نسطاس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ (السیرۃ النبویۃ، ذکر یوم الرجیع فی سنۃ ثلث، ج ۴، ص ۱۴۷)

حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک قید رہے۔ حبیر بن ابی اھاب تمیمی کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئیں کہتی ہیں: ”کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر برابر، ہاتھ میں لئے ہوئے انگور کھا رہے تھے اور مکہ میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھا۔“ وہی کہتی ہیں کہ جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کیلئے اسٹرہ مانگا وہ دیدیا گیا، اتفاق سے ایک کمسن بچہ اس وقت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اسٹرہ ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ انکے پاس، یہ دیکھ کر گھبرائے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچہ قتل کر دوں گا، ایسا نہیں کر سکتا اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور رسولی پر لٹکانے کے وقت

آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہوتا و انھوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ میں دور کعت نماز پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اللہ جل شانہ کی ملاقات قریب ہے چنانچہ مہلت دی گئی انھوں نے دور کعتیں بڑے اطمینان سے پڑھیں اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر سے دیر کر رہا ہوں تو دور کعت اور پڑھتا اس کے بعد سولی پر لٹکا دیئے گئے۔

حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختہ دار پر: جب مشرکین مکہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار پر کھڑا کیا تو جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کے لئے بددعا کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے زمین پر لٹا دیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر زمین پر لیٹ جائیں تو بددعا کا اثر نہیں ہوتا۔ اس بددعا سے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی مجھ پر اس بددعا کا یہ اثر ہوا کہ کئی سالوں تک میری شہرت ختم رہی۔ کہتے ہیں کہ ایک سال کے اندر اندر جتنے آدمی بھی سولی پر چڑھاتے وقت موجود تھے مرکھ گئے۔

سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انھیں ایک عمل بتایا اور ساتھ ہی پوچھا کہ یہ شی کا سبب کیا ہے؟ انھوں نے بتایا کہ جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر کھڑا کیا تو میں وہاں موجود تھا جو نبھی اس کا نقشہ سامنے آتا ہے میں حواس کھو بیٹھتا ہوں۔ تختہ دار پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ عزوجل! ہم نے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی تبلیغ پر عمل کیا، یہاں کوئی بھی نہیں جو میرا پیغام ان تک

پہنچا دے۔ تو قادر و قیوم ہے۔ میر اسلام ان تک پہنچا دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ آثار و حی طاہر ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور بتایا خدا عزوجل نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام مجھے پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی جو شخص حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار سے نیچے اتارے گا اس کا مقام بہشت ہے۔

(شواهد النبوة، رکن رابع، ص ۱۰۰)

حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسالت: حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو بالکل آغاز اسلام میں مشرف بہ اسلام ہونے کا امتیاز حاصل ہے۔ ایسے خوفناک ماحول میں جب اسلام لانے کی پاداش میں سخت ترین مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑتا تھا، حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ سخت سخت اذیتیں دیتے تھے۔ ان کو پکڑ کر لے جاتے اور دھوپ میں لٹا دیتے اور پھر لا کران کے پیٹ پر رکھ دیتے اور کہتے تمہارا دین لات و عزی کا دین ہے۔ حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرا پروردگار اللہ عزوجل ہے۔ ایسے ایسے مصائب جھیلتے مگر میں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پیوست تھا کہ سارے آلام و مصائب اس کے سامنے نیچے تھے۔

(السیرۃ النبویۃ، ذکر عدو ان المشرکین علی المستضعفین، ج ۱، ص ۲۹۷)

ایک دن حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے قریش کو اس کا علم نہ

تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوہرا دھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتوں

کے پاس آ کر ان پر تھوکنے لگے اور کہنے لگے وہ لوگ نا کام اور خسارہ میں ہیں جنہوں نے تمہاری پرستش کی۔ قریش نے ان کو گرفتار کرنا چاہا لیکن آپ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے مالک عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں چھپ گئے۔ قریش کے لوگ عبد اللہ کے پاس آئے اور اس کو آواز دی، وہ باہر آیا تو اس سے ان لوگوں نے کہا: کیا تم بے دین ہو گئے؟ اس نے کہا: مجھ جیسے شخص سے بھی ایسی بات کہی جا رہی ہے اب تو شخص اسکے کفارہ میں لات و عزی کے لئے ۱۰۰ اونٹیاں قربان کروں گا۔ قریش کے لوگوں نے کہا: تمہارے کالے (بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے یہ کرڈا ہے۔ اس نے ان کو بلایا۔ لوگ ان کو تلاش کر کے عبد اللہ کے پاس لائے یہاں کو پہچانتا ہے۔ اس نے خولیہ کو بلا کر پوچھایا کیون ہے کیا میں نے تم کو یہ حکم نہ دے رکھا تھا کہ مکہ کے غلاموں میں سے کسی کو یہاں نہ رہنے دینا۔ خولیہ نے کہا یہ تمہاری بکریاں چراتا تھا اور اس کے علاوہ اور کوئی ان کو پہچانتا تھا اس طرح میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔

اس کے بعد عبد اللہ نے ابو جہل اور امیہ بن خلف سے کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے حوالے ہے، تم لوگ اس کے ساتھ جو چاہو کرو۔ یہ دونوں ان کو بلطجے کے پتے ہوئے حصہ پر کھینچتے ہوئے لاتے ہیں اور ان کے دونوں بازوؤں پر چکلی رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اکفر محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) ! محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرو۔ یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ دامنِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھوڑوں اور پھر اللہ عز وجل کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔

اس عذاب کا سلسلہ ٹوٹا تھا کہ وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا

انہوں نے فرمایا: اس اسود (کالے) کو کیا کرنا چاہتے ہو خدا عز وجل کی قسم! تم اس سے

انتقام لے ہی نہیں سکتے۔

امیہ بن خلف نے اپنے آدمیوں سے کہا یکھو! میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلتا ہوں کہ ابھی تک ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلانے گیا ہوگا۔ پھر وہ ہنس کر بولا ابو بکر! (رضی اللہ عنہ) تمھارا میرے اوپر قرض ہے تم مجھ سے بلاں (رضی اللہ عنہ) کو خرید لو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں (کیا لو گے) اس نے کہا تمھارے غلام نسلاس کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اسے دیدوں تو تم بلاں کو مجھے دے دو گے اس نے کہا ہاں! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ کر لیا۔ پھر وہ ہنس کر بولا نہیں آپ کو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی دینا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو یہی سہی۔

پھر اس نے وہی شرارت کی کہ نہیں آپ کو اس کی بیوی کے ساتھ اس کی لڑکی کو بھی دینا ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو یہ بھی سہی۔ پھر وہ ہنس کر بولا اتنے میں بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ ان کے ساتھ دوسو دینار نہ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھیں جھوٹ سے کچھ شرم نہیں۔ اس نے لات و عزی کی قسم کھا کر کہا اگر آپ یہ دوسو دینار بھی دیدیں تو ضرور اپنی بات پوری کروں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھی سہی۔

اب جا کر یہ سودا مکمل ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنی بھاری قیمت پر حضرت بلاں رضی اللہ عنہ کو خرید کر رضاۓ الہی عزوجل کے لئے آزاد کردیتے ہیں۔ حضرت بلاں رضی اللہ عنہ کو جا نگسل مصائب و آلام سے چھکارا ملتا ہے۔

سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمسن جانباز: غابہ مدینہ طیبہ سے چار پانچ میل پر

ایک آبادی ہے وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے کچھ اونٹ چرا کرتے تھے۔ کافروں کے ایک مجمع کے ساتھ عبدالرحمن فزاری نے ان کو لوٹ لیا جو صاحب چراتے ان کو قتل کر دیا اور انہوں کو لیکر چل دیئے۔ یہیرے گھوڑے پر سوار تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے اتفاقاً حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ صحیح کے وقت پیدل تیر کمان لئے ہوئے غابہ کی طرف چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان ٹیڑوں پر نظر پڑی۔ بچے تھے وہ دوڑتے بہت تھے کہتے ہیں کہ ان کی دوڑ ضرب المثل اور مشہور تھی یہ اپنی دوڑ میں گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے اور گھوڑا ان کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیر اندازی میں بہت مشہور تھے۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے ایک پیماڑی پر چڑھ کر لوٹ کا اعلان کیا اور خود ان ٹیڑوں کے پیچھے دوڑتے تیر کمان ساتھ ہی تھی یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے اور تیر مارنے شروع کئے اور اس پھرتوں سے دم دم تیر بر سائے کہ وہ لوگ بڑا مجمع سمجھے اور چونکہ خود تہبا تھے اور پیدل بھی تھے اس لئے جب کوئی گھوڑا الوٹا کر پیچھا کرتا تو کسی درخت کی آڑ میں چھپ جاتے اور آڑ میں سے اس گھوڑے کو تیر مارتے جس سے وہ زخمی ہو جاتا اور وہ اس خیال سے واپس جاتا کہ گھوڑا اگر گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غرض وہ بھاگتے رہے اور میں پیچھا کرتا رہا حتیٰ کہ جتنے اونٹ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے لوٹ تھے وہ میرے پیچھے ہو گئے اور تمیں بر پیچھے اور تمیں چادریں وہ اپنی چھوڑ گئے اتنے میں عینہ بن حسن کی ایک جماعت مدد کے طور پر ان کے پاس پہنچ گئی۔ اور ان ٹیڑوں کو قوت حاصل ہو گئی اور یہ

بھی معلوم ہو گیا کہ میں اکیلا ہوں۔ ان کے کئی آدمیوں نے مل کر میرا چیچھا کیا میں ایک پیہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ بھی چڑھ گئے۔ جب میرے قریب ہو گئے تو میں نے کہا کہ ذرا ٹھہر و! پہلے میری ایک بات سنو! تم مجھے جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں انہوں نے کہا کہ بتاؤ تم کون ہو میں نے کہا کہ میں ابن الائکوں ہوں اس ذات پاک کی قسم! جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی تم میں سے کوئی مجھے پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا اور میں تم میں سے جسکو پکڑنا چاہوں وہ مجھ سے ہرگز نہیں چھوٹ سکتا۔ ان کے متعلق چونکہ عام طور سے یہ شہرت تھی کہ بہت زیادہ دوڑتے ہیں حتیٰ کہ عربی گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لئے یہ دعویٰ کچھ عجیب نہیں تھا۔

سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح ان سے بات چیت کرتا رہا اور میرا مقصود یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس تو مدد پہنچ گئی ہے مسلمانوں کی طرف سے میری مدد بھی آجائے کہ میں بھی مدینہ میں اعلان کر کے آیا تھا۔ غرض ان سے اسی طرح میں بات کرتا رہا اور درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف غور سے دیکھتا تھا کہ مجھے ایک جماعت گھوڑے سواروں کی دوڑ کر آتی ہوئی نظر آئی ان میں سب سے آگے اخمر اسدی تھے انہوں نے آتے ہی عبد الرحمن فزاری پر حملہ کیا اور عبد الرحمن بھی ان پر متوجہ ہوا۔ انہوں نے عبد الرحمن کے گھوڑے پر حملہ کیا اور پاؤں کاٹ دیئے جس سے وہ گھوڑا گرا اور عبد الرحمن نے گرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا جس سے وہ شہید ہو گئے اور عبد الرحمن ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا ان کے پیچے ابو قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ عبد الرحمن نے فوراً ابو قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے پاؤں پر حملہ کیا جس سے وہ گرے اور گرتے ہوئے انہوں نے عبد الرحمن پر حملہ کیا جس سے وہ

قتل ہو گیا اور ابو قاتا دہ رضی اللہ عنہ فوراً اس گھوڑے پر سوار ہو گئے جو پہلے اخرم اسدی کا تھا اور اب اس پر عبد الرحمن سوار ہو چکا تھا۔

(صحیح مسلم، کتاب الجہاد و السیر، باب غزوہ ذی قرد وغیرہا، الحدیث: ۱۸۰۷، ص ۱۰۰۰)

مجاہد انہ جواب: قریش مکہ نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لئے جب جنگ بدرا کی بنیاد ڈالی تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ دشمن لڑنے پر آمادہ ہے۔ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے مہاجرین نے جواب دیا۔ یا رسول اللہ! عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم وہی کریں جس بات کا خدا عز وجل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ خدا عز وجل کی قسم! ہم ایسا نہ کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔

فَأَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا تَرْجِمَ كَنْزَ الْأَيْمَانَ: تو آپ جائیے اور آپ کا هُمَا قَعْدُونَ (۲۶، المائدہ: ۲۴) رب تم دونوں اڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔

یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے نام پر قربان ہو جانے کو تیار ہیں۔ انصار نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم! ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس خدا عز وجل کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو مجموعت فرمایا ہے اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہمیں دریا میں کو وجانے کا اشارہ فرمائیں گے تو ہم اس میں کو وجائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہم سے مشورہ کیوں طلب فرماتے ہیں ہم بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں۔

تعالی اللہ یہ شیوہ ہی نہیں ہے باوفاؤں کا
پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماوں کا

نبی کا حکم ہو تو کوڈ جائیں ہم سمندر میں
جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ مجاہدانہ جواب پا کر بہت خوش ہوئے۔

(مدارج النبوت، قسم سوم، ذکر سال دوم از هجرت مذکور جنگ بدر، ج ۲، ص ۸۳)

حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک کہانی: تین صحابہ حضرت کعب بن مالک،
ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربع رضی اللہ عنہم بغیر کسی قوی عذر کے سنتی کے باعث جنگ
تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی سرگزشت بڑی
تفصیل کے ساتھ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ میں جنگ تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں
بھی اتنا مالدار نہیں تھا جتنا تبوک کے وقت تھا اس وقت میرے پاس خود ذاتی دو
اوٹنیاں تھیں اس سے پہلے کبھی میرے پاس دواونٹیاں نہ ہوئی تھیں۔ جنگ تبوک کے
موقع پر چونکہ سفر دور کا تھا اور گرمی بھی شدید تھی اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
صاف اعلان فرمایا تھا کہ لوگ تیاری کر لیں چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام بھی لکھنا دشوار تھا اور مجمع
کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں اور پرانے چلو تو ہو سکتا
تھا۔ میں بھی سامان سفر کی تیاری کا ارادہ صبح ہی کرتا مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری
کی نوبت نہ آتی۔ میں اپنے دل میں خیال کرتا کہ مجھے وسعت حاصل ہے پختہ ارادہ
کروں گا تیاری فوراً ہو جائے گی۔

اسی طرح دن گزرتے گئے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے مگر میر اسامان سفر تیار نہ ہوا۔ پھر مجھے یہ خیال رہا کہ ایک دو روز میں تیار ہو کر لشکر سے جاملوں گا۔ اس طرح آج کل پرٹال تارہ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اور مسلمان تبوک کو روانہ ہو گئے۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان نہ ہو سکا۔ اب جب مدینہ منورہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو صرف وہی لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا بدنماداغ لگا ہوا تھا یا معدود تھے۔ ادھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں پڑتے کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم! اس کو مال و جمال کے فخر نے روکا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غلط کہا ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلے آدمی ہیں، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور پچھار شادنہ فرمایا حتیٰ کہ چند روز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم ہوا اور فکر پیدا ہوئی۔ دل میں جھوٹے جھوٹے عذر آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے جان بچالوں پھر کسی وقت معافی کی درخواست کرلوں گا اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر بھجدار سے مشورہ کرتا رہا مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تشریف لے ہی آئے تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کے کوئی چیز نجات نہ دیگی اور میں نے سچ سچ عرض کرنے کی ٹھان لی۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی عادت تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لیجاتے اور دور کعت تحریۃ المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں۔ چنانچہ حسب معمول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم

تشریف لائے تو مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں تشریف فرمائے اور منافق لوگ جھوٹے جھوٹے عذر کرتے اور قسمیں کھاتے رہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ان کے ظاہری حال کو قبول فرماتے رہے کہ اتنے میں میں بھی حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو سلام کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ناراضی کے انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا میں نے عرض کیا۔ یا نبی اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اعراض کیوں فرمالیا۔ خدا عزوجل کی قسم! میں نہ تو منافق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ ارشاد فرمایا: کہ یہاں آ۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: تجھے کس چیز نے روکا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اگر میں کسی دنیادار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصے سے کوئی نہ کوئی بات بنا کر خلاصی پالیتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقه اللہ عزوجل نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے متعلق مجھے علم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے سامنے جھوٹ نہیں چل سکتا۔ اور اگر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے سچی بات عرض کروں جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم مجھے سے ناراض ہو جائیں تو مجھے امید ہے کہ خدا عزوجل کی ذات پاک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے عتاب کو زائل کر دے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم میں سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ واللہ عزوجل! مجھے کوئی عذر نہ تھا اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس زمانہ میں تھا کسی زمانہ میں بھی اس سے پہلے نہ ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اس نے سچ کہا۔ پھر فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے سے کہا: بخدا ہم نہیں جانتے کہ تو نے

اس سے پہلے کوئی گناہ کیا ہو۔ اگر تو کوئی عذر کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار تیرے لئے کافی تھا۔

میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو۔

لوگوں نے بتایا کہ دشمنوں کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی اور یہی جواب ان کو بھی ملا ہے جو تجھ کو ملا ایک ہلال بن امية دوسرے مرارہ بن ریچ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں نے دیکھا کہ دو صاحب شخص جو دونوں بدری ہیں وہ بھی

میرے شریک حال ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی بھی ممانعت فرمادی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ اب اس ارشاد کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

اجمیعین نے تعقیل اس طرح کر کے دکھادی کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کیا۔ گویا

دنیا ہی بدلتی ہتھی کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے ہمیں تنگ معلوم ہونے لگی سارے لوگ اپنی معلوم ہونے لگے درود یوار بیگانے ہو گئے مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنازہ کی نماز بھی نہ

پڑھیں گے اور خدا نخواستہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایسا ہی رہوں گا نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا نہ میری نماز جنازہ پڑھے گا

کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے۔

غرض ہم تینوں نے پچاس دن اس حال میں گزارے۔ میرے دونوں رفقاء شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں سب میں قوی تھا، چلتا پھرتا، بازار میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

مکہ

وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا۔ اور بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک جواب کے لئے ہے یا نہیں؟ نماز کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں مشغول ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے رخ انور پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض فرمائیتے۔

غرض یہی حالات گزرتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت بند کر دینا مجھ پر بہت ہی بھاری ہو گیا تو میں ابو قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار پر چڑھا وہ میرے رشتہ کے چچا زاد بھائی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت، ہی زیادہ تھے میں نے اور چڑھ کر سلام کیا۔ تو انھوں نے بھی سلام کا جواب نہ دیا میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے انھوں نے اس کا جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور دریافت کیا وہ پھر بھی چپ ہی رہے میں نے تیسری بار قسم دے کر پوچھا تو انھوں نے صرف اتنا کہا۔ اللہ عزوجل جانے اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمہ سکر میری آنکھوں سے آنسونکل پڑے اور میں وہاں سے لوٹ آیا۔

اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک قبطی کو جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا یہ کہتے ہوئے سناؤ کہ کوئی کعب بن مالک (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا پتا بتائیے۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا۔ وہ نصرانی میرے پاس آیا اور غسان کے کافر بادشاہ کا خط مجھے لا کر دیا اس میں لکھا ہوا

تحا، ”ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجوہ پر ظلم کر رکھا ہے تجوہ اللہ عزوجل ذلت کی جگہ نہ رکھے اور ضائع نہ کرے تم ہمارے پاس آجاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے۔“ حضرت عبد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کر اِنَا لِلَّهِ بُرْهَانٌ کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کافر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے ہیں اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگی ہیں۔ یہ ایک مصیبت اور آئی اور اس خط کو میں نے ایک تصور میں پھینک دیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کیا: یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعراض کی وجہ سے کافر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے۔

اس حالت میں ہم پر چالیس روز گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد میرے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد والا لیکر آیا کہ اپنی زوجہ کو بھی چھوڑ دو میں نے دریافت کیا کہ کیا منشا ہے اسکو طلاق دیدوں؟ کہا نہیں بلکہ اس سے علیحدگی اختیار کرو اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی ان ہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا میں نے اپنی زوجہ سے کہہ دیا کہ تو اپنے میکے میں چلی جا جب تک اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ نہ فرمائے، وہیں رہنا۔ ہلال بن امیمہ کی زوجہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ہلال بالکل بوڑھے شخص ہیں کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہو گا تو ہلاک ہو جائیں گے، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں کچھ کام کا جان کار دیا کروں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اس بات کی تجوہ اجازت ہے مگر قربت نہ ہو انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اس بات کی طرف تو ان کو میلان بھی نہیں جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا

ہے آج تک ان کا وقت رو تے ہی گز رہا ہے۔

حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حال میں دس روز اور گزرے کہ ہم سے بات چیت میل جوں چھوٹے ہوئے پورے پچاس دن ہو گئے۔ پچاسویں دن صحی کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا کہ زمین مجھ پر بالکل تنک تھی اور زندگی دو بھر ہو رہی تھی کہ سلیع پہاڑ کی چوٹی پر ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشخبری ہو تم کو میں اتنا ہی سنکر سجدہ میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحی کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا جس پر ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی جو سب سے پہلے پہنچ گئی، اسکے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سور بھاگے ہوئے آئے، میں نے اپنے پہنے کے کپڑے اس بشارت دینے والے کی نذر کئے اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لیکر لوگ گئے۔ میں جب مسجد نبوی میں گیا تو لوگ خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ مبارکباد دینے کے لئے دوڑے اور سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا جو ہمیشہ ہی یاد گار رہے گا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو چہرہ انور کھل رہا تھا اور خوشی کے انوار چہرہ مبارک سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت چاند کی طرح چمنے لگتا تھا۔

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جتنی جائیداد ہے وہ سب اللہ عزوجل کے راستے میں صدقہ ہے (اس لئے کہ یہ امارت و

شرط ہی اس مصیبت کا سبب بنی تھی) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہو گئی کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو میں نے عرض کیا بہتر ہے کچھ حصہ میرے پاس بھی رہنے دیا جائے مجھے سچ ہی نے نجات دی اس لئے میں نے عہد کیا ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔

(صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب حدیث کعب بن مالک.....الخ، الحدیث:
۱۴۵، ج ۳، ص ۴۴)

فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک یہودی اور ایک منافق میں کسی بات پر جھگڑا پیدا ہو گیا۔ یہودی چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ہو میں اسے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں۔ چنانچہ وہ کوشش کر کے اسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عدالت میں لے آیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واقعات سنکر فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ وہ منافق یہودی سے کہنے لگا میں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلوں کا اور ان کا ہی فیصلہ منظور کروں گا یہودی بولا عجیب الٹے آدمی ہو۔ کوئی بڑی عدالت سے ہو کر چھوٹی عدالت میں بھی جاتا ہے جب تمہارے پیغمبر (محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) فیصلہ دے چکے تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟

مگر وہ منافق نہ مانا اور اس یہودی کو لیکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ طلب کرنے لگا، یہودی بولا جناب پہلے یہ بات سن لیجئے کہ ہم اس سے قبل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ لے آئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں فرمادیا ہے مگر یہ شخص اس فیصلہ سے مطمئن نہیں اور اب یہاں آپ

رضي اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپنچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو منافق سے پوچھا کیا یہودی جو کچھ بیان کر رہا ہے درست ہے؟ منافق نے کہا ہاں سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اس کے حق میں فیصلہ کر لے گے ہیں۔ فاروق عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اچھا ٹھہرو میں ابھی آیا اور تمھارا فیصلہ کرتا ہوں یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے اور پھر ایک تلوار لیکر نکلے اور اس منافق کی گردان پر یہ کہتے ہوئے ماری کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ یہ ہے۔

حضرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا واقعی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کسی مومن پر نہیں لٹھتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمادی۔

فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُوْ مِنُونَ حَتَّىٰ
تَرْجِمَةَ نَزَالِ الْيَمَانِ: تَوَاءَ مَحْبُوبٍ تَهَارَ رَبُّ
كَيْ قَسْمٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ نَهْ هُوَ الْجَبَرُ بَيْهُمْ
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْهُمْ
آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا کیں۔
(پ، ۵، النساء: ۶۵)

(الدر المنشور، النساء: ۶۵، ج، ۲، ص ۵۸۵)

شمیشیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماموں کا سر: جنگ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حقیقی ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ غصے میں بھرا ہوا جنگ کے لیے میدان میں نکلا حضرت فاروق عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ اور بھائی نے ماموں کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ سر کو کاٹتی ہوئے جبڑے تک اتر گئی اور فاروق عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لئے یہ نیظیر قائم کر دی کہ قبلہ اور رشتہ داری سب کچھ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر قربان ہے۔

بیٹے کی تواریخ پاپ کا سر: ۵ میں بنو مصطفیٰ کی مشہور جنگ ہوئی اس میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کی بامڑائی ہوئی معمولی بات تھی مگر بڑھائی ہر ایک نے اپنی اپنی قوم سے دوسرے کے خلاف مدد چاہی اور دو فریق ہو گئے۔ قریب تھا کہ آپس میں لڑائی ہو جائے مگر بعض لوگوں نے درمیان میں پڑ کر صلح کرادی۔ عبد اللہ بن ابی منافقوں کا سردار اور مسلمانوں کا سخت مخالف تھا مگر چونکہ اسلام ظاہر کرتا تھا اس لئے اس کے ساتھ خلاف کا برتاباً نہ کیا جاتا تھا۔ اور یہی اس وقت کے منافقوں کے ساتھ عام برتاباً کیا جاتا تھا۔ اس کو جب اس قصے کی خبر ہوئی تو اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ لفظ کہے اور اپنے دوستوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ تمھارا اپنا ہی کیا ہوا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو اپنے شہروں میں ٹھکانا دیا اپنے مالوں کو ان کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا اگر تم ان لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دو تو ابھی سب چلے جائیں اور یہ بھی کہا کہ خدا عزوجل کی قسم اگر ہم مدینہ پہنچ گئے تو ہم عزت والے ل کر ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عمر بچے تھے۔ وہاں موجود تھے یہ سنکرتا بن لا سکے کہنے لگے خدا عزوجل کی قسم! تو ذلیل ہے، تو اپنی قوم میں بھی ترچھی زگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تیرا کوئی حمايت نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں۔ حرمٰن عزوجل کی طرف سے بھی عزت دیئے گئے ہیں اور اپنی قوم میں بھی عزت والے ہیں عبد اللہ بن ابی نے کہا اچھا چپکارہ میں تو دیئے ہی مذاق میں کہہ رہا تھا مگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر دیا۔ حضرت عمر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست بھی کی کہ اس کا فریکی گردن اڑادی جائے مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اجازت مرحمت نہ فرمائی۔ عبد اللہ بن ابی کو جب اس کی خبر ہوئی کہ حضور تک یہ قصہ پہنچ گیا ہے تو حاضر خدمت ہو کر جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ میں نے کوئی ایسا لفظ نہیں کہا ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ نقل کر دیا ہے۔ انصار کے بھی کچھ لوگ حاضر خدمت تھے۔ انہوں نے بھی سفارش کی کہ یا رسول اللہ! عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم عبد اللہ قوم کا سردار ہے بڑا آدمی شمار ہوتا ہے کہ ایک بچہ کی بات اس کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ممکن ہے کہ سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو یا سمجھنے میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اس کا اعزز قبول فرمایا۔

حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی کہ اس نے جھوٹی قسموں سے اپنے کو سچا ثابت کر دیا اور زید کو جھٹلا دیا تو شرم کی وجہ سے باہر نکلا چھوڑ دیا۔ بالآخر سورہ منافقون نازل ہوئی جس سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی اور عبد اللہ بن ابی کی جھوٹی قسموں کا راز کھل گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقعت موافق و مخالف سب کی نظرؤں میں بڑھ گئی اور عبد اللہ بن ابی کا قصہ بھی سب پر ظاہر ہو گیا عبد اللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبد اللہ تھا اور بڑے کے مسلمان اور سچے عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تھے جنگ سے واپسی کے وقت مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور باب سے کہنے لگے: اس وقت تک مدینہ میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تو اس کا اقرار نہ کرے کہ تو ذمیل ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم عزیز ہیں۔ اس کو بڑا تجھب ہوا کیونکہ یہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ نیکی کا برتاو کرنے والے تھے مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے مقابلے میں باپ کی کوئی عزت و محبت دل میں نہ رہی۔ آخر اس نے مجبور ہو کر اقرار کیا

کے واللہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں اس کے بعد مدینہ میں داخل ہو سکا۔

(السیرۃ النبویۃ، جهجاہ وسنان وما کان من ابن ابی، ج ۳، ص ۲۴۸-۲۴۹)

اسی طرح جنگ بدر میں کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ جب میدان میں نکلا تو اسکے فرزند حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کھینچ کر اس کے مقابلے کو نکلے، مگر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ بیٹھے کی تلوار باپ کے خون سے رنگیں ہو، اس لئے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ سے ہٹادیے گئے اور عتبہ بن ربیعہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار سے قتل ہوا۔

باپ ناپاک بستر پاک: ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد ابوسفیان صلح حدیبیہ کے زمانے میں مدینہ آئے اپنی بیٹی سے ملنے گئے اور بستر پر بیٹھنے لگ تو بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بستر اٹ دیا اور فرمایا کہ یہ اللہ عزوجل کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پاک بستر ہے اور تم مشرک ہوئیکی وجہ سے ناپاک ہوا سلئے تم اس بستر نبوت پر نہیں بیٹھ سکتے۔ ابوسفیان کو اس سے بڑا رنج ہوا مگر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں جو عظمت و محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھی اسکے لحاظ سے وہ کب برداشت کر سکتی تھیں کہ بستر نبوت پر ایک مشرک بیٹھے۔ اللہ اکبر! حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے باپ کی عظمت و محبت کو محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا کیونکہ یہی ایمان کی شان ہے کہ باپ چھوٹا ہوتا ہو تو چھوٹ جائے مگر عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔

(الطبقات الکبریٰ، ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ عنہا، ج ۸، ص ۷۸)

معرکہ احمد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جاں شاری

حضرت علی رضی اللہ عنہ: غزوہ احمد میں مسلمانوں کو کچھ نشکست کا سامنا ہوا۔ اس وقت مسلمان چاروں طرف سے کفار کے نزغے میں آگئے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے اور کچھ بھاگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کفار نے گھیر لیا اور یہ مشہور کردیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس خبر سے بہت پریشان ہوئے، اور اسی وجہ سے بہت سے ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ کفار نے جب مسلمانوں کو گھیر لیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری نظر سے او جھل ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اول زندوں میں تلاش کیا، نہ پایا پھر شہداء میں جا کر تلاش کیا وہاں بھی نہ پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لڑائی سے بھاگ جائیں۔ اظہار حق تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر ناراض ہوا۔ اس لئے اپنے پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر اٹھالیا۔ اس لئے اب اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں تلوار لے کر کافروں کے جھٹے میں کھس جاؤں۔ یہاں تک کہ مارا جاؤں۔ میں نے تلوار لے کر حملہ کیا۔ یہاں تک کہ کفار نیچے میں سے ہٹتے گئے۔

میری نگاہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پڑگئی تو بے حد سرست ہوئی اور میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علی! ان کو روکو۔ میں نے تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ

پھر دیئے اور بعضوں کو قتل کیا اس کے بعد پھر ایک اور جماعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کے لئے بڑھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا انہوں نے پھر تنہ اس جماعت کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جوانمردی اور مدد کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انه مني وانا منه بيشك على مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یعنی کمال اتحاد کی طرف اشارہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: ”وانا منکما“ اور میں تم دونوں سے ہوں۔

(مدارج النبوت، قسم سوم، باب چھارم، ج ۲، ص ۱۲۱، ۱۲۲)

غسلیل الملائکہ: جنگ احمد کے ایام میں حضرت حظله بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی۔ جس رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دہن کو بیاہ کر لائے تھے، اسی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ کفارِ مکہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں، ان کے مقابلے کے لئے میدان جہاد میں چلو۔ حضرت حظله رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ نوجوان تھے اور شادی کی پہلی شب تھی مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جہاد نکر سب کچھ بھول گئے اور اپنی دہن کو بھی نظر انداز کیا، گویا یہ شعر پڑھتے ہوئے کہ:

سب سے بیگانہ رہے یار و شناسا تیرا
حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا

میدان جہاد میں چلنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس محیت کے عالم میں

آپ کو اپنے غسل کرنے کی ضرورت بھی یاد نہ رہی۔ اسی حالت میں معمر کہ جنگ میں تشریف لے گئے اور اسی دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شہید بھی ہو گئے۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو شہداء کی لاشیں جمع کرنے کا حکم نبوی ہوا! سب لاشیں مل گئیں مگر حضرت حنظله رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک نہ ملی یا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ملاحظہ فرمایا تو دیکھا کہ حضرت حنظله رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش فرشتے اوپر لے جا کر ایک نورانی تختے پر لٹا کر آب رحمت سے غسل دے رہے ہیں اسی دن سے آپ کا لقب غسيل الملائکہ ہوا۔

(الاستیعاب، حضرت حنظله بن ابی عامر رضی الله عنہ، ج ۱، ص ۴۳۳)

شوقي شہادت: حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی واقص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ! آؤ مل کر دعا کریں ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق دعا کرے اور دوسرا آمین کہے۔ پھر دونوں حضرات نے ایک کونے میں جا کر دعا کی۔ اول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی۔ یا اللہ! عزوجل جب کل لڑائی ہوتی میرے مقابلہ میں ایک بڑے بہادر کو مقرر فرمانا میں اس کو تیرے راستے میں قتل کروں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اے اللہ عزوجل! کل میدان جہاد میں میرا ایک بہادر سے مقابلہ کر جو سخت حملہ والا ہو میں اس پر شدت سے حملہ کروں وہ بھی مجھ پر زور سے حملہ کرے اور میں بہتوں کو قتل کر کے پھر خود بھی شہید ہو جاؤں اور شہید ہونے کے بعد کافر میرے ناک کان کاٹ لیں پھر قیامت میں جب میں تیرے حضور پیش کیا جاؤں تو تو فرمائے عبداللہ! تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے تو میں عرض کروں

یا اللہ! عز وجل تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے راستے میں کاٹے گئے پھر تو کہہ کہ سچ ہے میرے ہی راستے میں کاٹے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی دوسرے دن لڑائی ہوئی تو دونوں حضرات کی دعائیں اسی طرح قبول ہوئیں جس طرح مانگی تھیں۔ (الاستیعاب، باب حرف العین، ج ۳، ص ۱۵)

قدِمِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر شہادت: جنگ احمد کی ہل چل اور بدحواسی میں جب مہر رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو جھوم کفار کے دل بادل نے گھیر لیا۔ اور اس وقت سید الحجبویین صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ کون مجھ پرجان دیتا ہے۔ تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند انصاریوں کو لے کر یہ خدمت ادا کرنے کے لئے بڑھے۔ ہر ایک نے جاں بازی سے لڑتے ہوئے اپنی جان فدا کر دی، مگر ایک زخم بھی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو لگنے نہ دیا، اور زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ زخموں سے چور چور ہو کر دم توڑ رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا لاشہ میرے قریب لاو، لوگ اٹھا کر لائے ابھی کچھ جان باقی تھی آپ نے زمین پر گھست کر اپنا منہ محبوب خدا عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا اور اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ! اس موت پر ہزاروں زندگیاں قربان۔

(اسد الغابة فی معرفة الصحابة، حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ، ج ۲، ص ۳۲۱)

تیرے قدموں پر سر ہوا اور تار زندگی ٹوٹے
یہی انعام الفت ہے یہی مرنے کا حاصل ہے

اسی زخم: حضرت انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

بچا تھے، لڑتے لڑتے بہت آگے نکل گئے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ہتھیار پھینک دیئے۔ انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہاں تم لوگ کیا کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا کچھ پتا نہیں! لوگوں نے کہا اب لڑ کر کیا کریں گے؟ جن کے لئے لڑتے تھے وہی نہ رہے۔ ہم نے سنا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم شہید ہو گئے۔ انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ علیہ سفارت پر گئے اور فرمایا کہ پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ یہ کہہ کر دشمن کی فوج میں گھس گئے اور لڑ کر شہادت پائی۔ جنگ کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو ۸۰ سے زیادہ تیر، تلوار اور نیزہ کے زخم تھے، کوئی شخص پہچان تک نہ سکا ان کی بہن نے انگلی دیکھ کر لاش کو پہچانا۔

(اسد الغابۃ فی معرفة الصحابة، انس بن نصر، ج ۱، ص ۱۹۸)

حضرت وہب بن قابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ: حضرت وہب بن قابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جو کسی وقت میں مسلمان ہوئے تھے اور گاؤں میں رہتے تھے بکریاں چراتے تھے۔ اپنے پتھجے کے ساتھ ایک رسی میں بکریاں باندھے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے، پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کہاں تشریف لے گئے معلوم ہوا کہ احد کی لڑائی پر گئے ہوئے ہیں، وہ بکریوں کو وہیں چھوڑ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اتنے میں ایک جماعت کفار کی حملہ کرتی ہوئی آئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا جو ان کو منتشر کر دے وہ جنت میں میرا رفیق ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے تلوار چلانی شروع کی اور سب کو ہٹا دیا دوسرا مرتبہ پھر یہی صورت پیش آئی تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے انکو جنت کی خوشخبری دی

اس کا سننا تھا کہ تلوار لیکر کفار کے جم گھٹے میں گھس گئے اور شہید ہوئے۔

حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دلیری اور بہادری کسی لڑائی میں نہیں دیکھی اور شہید ہونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہانے کھڑے تھے اور ارشاد فرماتے تھے: اللہ عزوجل تم سے راضی ہو میں تم سے راضی ہوں۔ اسکے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے دفن فرمایا باوجود یہکہ اس لڑائی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زخمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے عمل پر استئنکش نہیں آیا جتنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر آیا میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ عزوجل کے یہاں ان جیسا اعمال نامہ لیکر پہنچوں۔

(الاصابة في تمييز الصحابة، وہب بن قابس، ج ۶، ص ۴۹۲)

حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا : یہ جنگ احمد میں اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور اپنے دو بیویوں حضرت عمارہ اور حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لیکر میدان میں کو دپڑیں۔ اور جب کفار نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا تو یہ ایک خنجر لیکر کفار کے مقابلہ میں کھڑی ہو گئیں اور کفار کے تیر و تلوار کے ہر ایک وارکو وکتی رہیں۔ یہاں تک کہ جب ابن قمیئہ ملعون نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار چلا دی تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس تلوار کو اپنی پیٹھ پر روک لیا۔ چنانچہ ان کے کندھے پر اتنا گہرا خزم لگا کہ غار پڑ گیا۔ پھر خود بڑھ کر ابن قمیئہ کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری کہ وہ دوکٹرے ہو جاتا مگر وہ ملعون دوہری زرد پہنے ہوئے تھا اس لئے نچ گیا۔ اس جنگ میں بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سروگردان پر تیرہ خزم لگے تھے۔

حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے ایک کافر نے جنگ احمد میں زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا بیٹا اٹھو۔ کھڑے ہو جاؤ اور پھر جہاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اتفاق سے وہی کافر سامنے آ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا! دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتہ ہی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ میں تلوار کا ایسا بھر پور ہاتھ مارا کہ وہ کافر گر پڑا، اور پھر چل نہ سکا بلکہ سرین کے بل گھستتا ہوا بجا گا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا! تو خدا عزوجل کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی کہ تو نے خدا عزوجل کی راہ میں جہاد کیا۔

حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائے، اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لئے اس طرح دعا فرمائی کہ: اللهم اجعلہم رفقائی فی الجنة۔ یا اللہ عزوجل! ان سب کو جنت میں میرارفیق بنادے۔

حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندگی بھر علانیہ یہ کہتی رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت مجھ پر آ جائے تو مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ (الطبقات الکبریٰ لابن سعد، ام عمارہ، ج ۸، ص ۴۰۳)

پیامِ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اسی احمد کی اڑائی میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سعد بن ریبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال معلوم نہیں ہوا کہ کیا گزری۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کے لئے بھجا وہ شہداء کی جماعت میں تلاش کر رہے تھے آوازیں بھی دے رہے تھے کہ شاید وہ زندہ ہوں پھر پکار کر کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ سعد بن ریبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لا دُوں تو ایک جگہ سے بہت ہی ضعیف آواز آئی یہ اس طرف بڑھ جا کر دیکھا کہ سات مقتولین کے درمیان پڑے ہیں اور ایک آدھ سانس باقی ہے۔ جب یہ قریب پہنچ گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میرا اسلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ میری جانب سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے افضل اور بہتر بدله عطا فرمائے جو کسی نبی علیہ السلام کو اس کے امتی کی طرف سے بہتر سے بہتر عطا کیا ہو اور مسلمانوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگر کافر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی ہوئی رہے یعنی وہ زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر بھی تمہارا نہ چلے گا اور یہ کہہ کر جاں بحق ہوئے۔

(الاصحابة في تمييز الصحابة، سعد بن ریبع رضی اللہ عنہ، ج ۳، ص ۴۹)

حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق و دارفگی: احمد کی اڑائی سے فراغت پر مسلمان مدینہ طیبہ پہنچے۔ جنگ کی میکان تھی۔ مگر مدینہ منورہ پہنچتے ہی یہ اطلاع ملی کہ ابوسفیان نے اڑائی سے واپسی پر محراہ الاسد (ایک جگہ کا نام ہے) پہنچ کر ساتھیوں سے مشورہ کیا اور یہ رائے قائم کی کہ احمد کی اڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے ایسے موقع کو غیمت

سمجھنا چاہئے تھا کہ نہ معلوم پھر ایسا وقت آئے نہ آئے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو (نعواز بالله) قتل کر کے لوٹنا چاہئے تھا اس ارادہ سے اس نے واپسی کا مشورہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ احمد میں ساتھ تھے وہی صرف ساتھ ہوں اور دوبارہ حملہ کے لئے چنان چاہئے۔ اگرچہ مسلمان اس وقت تھکھے ہوئے تھے مگر اس کے باوجود سب کے سب تیار ہو گئے چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ صرف وہی لوگ ساتھ چلیں جو واحد میں ساتھ تھے اس لئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم میری تمنا احمد میں بھی شرکت کی تھی مگر والد نے یہ کہہ کر اجازت نہ دی کہ میری سات بہنیں ہیں کوئی مرداور ہے نہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم دونوں میں سے ایک کا رہنا ضروری ہے اور خود جانے کا ارادہ فرم اچکے تھے اس لئے مجھے اجازت نہ دی تھی۔ احمد کی لڑائی میں ان کی شہادت ہو گئی، اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم مجھے اجازت مرمت فرمادیں کہ میں بھی ہمراکاب چلوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اجازت مرمت فرمادی اسکے علاوہ اور کوئی ایسا شخص نہیں گیا جو واحد میں شریک نہ ہوا۔

(السیرة النبوية لابن هشام، خروج الرسول في اثر العدو... الخ، ج 2، ص 87)

ذات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

س

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے
تعلق خاطر پر عمومی نظر

Madinah Gift Centre

اسوہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا درخشاں باب

Madinah.in

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

برکت اندوزی: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مختلف طریقوں سے رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے برکت اندوز ہوتے رہتے۔ مثلاً بچے بیمار پڑتے یا بیڈا ہوتے تو ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے، آپ بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے، اپنے منہ میں کھجور ڈال کر اس کے منہ میں ڈالتے، اور اس کے لئے برکت کی دعا فرماتے۔

حضرت سائب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیمار پڑا تو میری خالہ مجھ کو آپ کی خدمت میں لے گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائے برکت کی اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خشوکیا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا۔

(صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب الدعاء للصبيان بالبرکةالخ،
الحدیث: ۶۳۵۲: ج ۴، ص ۲۰۴)

حضرت ابو موسیٰ اشعریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکا بیدا ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں لائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس کا نام رکھا، اپنے منہ میں کھجور ڈال کے اس کے منہ میں ڈالی اور اس کو برکت کی دعا دی۔

(صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب الدعاء للصبيان بالبرکةالخ،
الحدیث: ۶۳۵۲: ج ۴، ص ۲۰۳)

حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدا ہوئے تو ان کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو لیکر آئیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے کھجور منگا کر چبائی اور اس کو ان کے منہ میں ڈال دیا پھر برکت کی دعا دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم بچوں کے منہ میں لعاب ڈال دیتے اور بعض کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے۔

(صحیح البخاری، کتاب العقیقۃ، باب تسمیۃ المولود.....الخ، الحدیث: ۵۴۶۷، ج ۳، ص ۵۴۶)

حضرت زہرا بنت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بچپن ہی میں انکی والدہ ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں لا کیں سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی چنانچہ جب ان کو لیکر ان کے دادا غلہ خریدنے کے لئے بازار جاتے تھے اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن زیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم کو بھی شریک کرو کیوں کہ رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے تم کو برکت کی دعا دی ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب الشرکۃ، باب الشرکۃ فی الطعام وغیره، الحدیث:

(۱۴۵، ۲۵۰۲-۲۵۰۱، ج ۲، ص ۵۰۱)

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں: ”اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے برکت حاصل کرنے کیلئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آپ کی خدمت میں اپنی اولاد کو حاضر کرنے کا بڑا شوق تھا۔“

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، کتاب الشرکۃ، باب الشرکۃ فی الطعام وغیره، ج ۶، ص ۱۱۵)

نماز فجر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ملازم برتوں میں پانی لیکر حاضر ہوتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ان میں دست مبارک ڈال دیتے وہ متبرک ہو جاتا۔

جب پھل پختہ ہوتے تو پہلا پھل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں

پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وبارک وسلم برکت کی دعا فرماتے اور سب سے چھوٹا پچھے جو موجود ہوتا اسکو دے دیتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلام کے وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لئے آب حیات تھا جس پر وہ جان دیتے تھے۔

ایک بار حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلام کے وضو کا بچا ہوا پانی نکالا تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسکو جھپٹ لیا۔

(سنن النسائی، کتاب الطهارة، باب الانتفاع بفضل الوضوء، ج ۱، ص ۸۷)

ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلام نے وضو کیا۔ پانی نجح گیا تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسکو لیکر جسم پر پل لیا۔

(صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، الحدیث: ۱۸۷، ج ۱، ص ۸۸)

ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وبارک وسلم حلق کروار ہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وبارک وسلم کو گھیر لیا اور وہ اوپر ہی سے بالوں کو اچک رہے تھے۔

(صحیح مسلم، کتاب الوضوء، باب قرب النبی علیہ السلام من الناس و تبرکهم به، الحدیث: ۲۳۲۵، ص ۲۷۰)

ایک بار رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وبارک وسلم نے حضرت ابو مخدود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر ہاتھ پھریدیا، اس کے بعد انہوں نے عمر بھرنہ سر کے آگے کے بال کٹوانے نہ مانگ نکالی۔

(سنن ابی داود، کتاب الصلوة، باب کیف الاذان، تحت الحدیث: ۱۵۰، ج ۱، ص ۲۱۲)

بلکہ اس کو بطور برک اور یادگار کے قائم رکھا۔

آپ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مکان پر تشریف لاتے تو وہ آپ سے

برکت حاصل کرنے کی درخواست کرتے۔

ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وبارک وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے دعوت کی، جب چلنے لگے گھوڑے کی باگ پکڑ کر عرض کی کہ میرے لئے دعا فرمائیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وبارک وسلم نے دعاۓ برکت اور دعاۓ مغفرت فرمائی۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الأشربة، باب فی النفح فی الشراب ، الحدیث: ۳۷۲۹، ج ۳، ص ۴۷۵)

ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وبارک وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا۔ انہوں نے آہستہ سے جواب دیا۔ ان کے صاحزادے نے کہا کہ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وبارک وسلم کو اذان نہیں دیتے ہوں لے چپ رہو مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وبارک وسلم ہم پر بار بار سلام کریں آپ نے دوبارہ سلام کیا۔ پھر اسی قسم کا جواب ملا۔ تیسری بار سلام کر کے آپ واپس چلے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ میں آپ کا سلام مستتا تھا لیکن جواب اس لئے آہستہ سے دیتا تھا کہ آپ ہم پر متعدد بار سلام کریں۔

(سنن ابی داؤد ، کتاب الادب، باب کم مرہ یسلم الرجل فی الاستئذان ، الحدیث:

(۴۴۵، ج ۴، ص ۵۱۸۵)

محافظتِ یادگارِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلام: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلام کی یادگاریں محفوظ تھیں جن کو وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور ان سے برکت حاصل کرتے تھے۔

حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ

کی شہادت کے زمانے میں یزید کے دربار سے پلٹ کر مدینہ میں آئے تو حضرت مسور بن مخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور مجھ سے کہا کہ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مجھ دیوایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اس کو چھین لیں۔ خدا عزوجل کی قسم! اگر تم نے مجھے یہ تلوار دی تو جب تک جسم میں جان باقی ہے کوئی شخص اس کی طرف دست درازی نہیں کر سکتا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب النکاح، باب ما یکرہ ان یجمع بینهن من النساء ، الحدیث:
الحدیث: ۳۲۷، ج ۲، ص ۶۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والبَارکَ وَسَلَمَ کا ایک جبہ حفظ تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو لے لیا اور حفظ رکھا۔ چنانچہ جب ان کے خاندان میں کوئی شخص یہاڑہوتا تھا تو شفاقت حاصل کرنے کے لئے دھوکر اس کا پانی پلاتی تھیں۔

(المسند لامام احمد بن حنبل، حدیث اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
الحدیث: ۸، ۲۷۰۰۸، ج ۱۰، ص ۲۷۱)

بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان یادگاروں کو زاد آخوت سمجھتے تھے اور ان کو بعد مرگ بھی اپنے پاس سے جدا کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔

جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے تھے تو ان کی والدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والبَارکَ وَسَلَمَ کے لپسی کو ایک شیشی میں بھر کر اپنی خوبیوں میں ملا دیتی تھیں چنانچہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کیا تو وصیت کی کہ یہ خوبیوں کے حنوط (چند خوبیوں کا ایک مرکب جو مردہ کو غسل دینے کے بعد اس پر ملتے ہیں) میں شامل کی جائے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ

(صحیح البخاری، کتاب الاستئذان، باب من زار قوما فقال عندهم ، الحدیث:

(۱۸۲، ج ۶۲۸۱)

لیکن علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں پہلے تو اسکو ایک بے جوڑ چیز سمجھا ہے لیکن اس کے بعد لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک اس سے وہ بال مبارک مراد ہیں جو کنگھی کرنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے سر سے جدا ہو جاتے تھے۔

پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے جب منی میں اپنے بال مبارک اتروانے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ مبارک وسلم کے بال مبارک لے لئے اور انکو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے حوالے کیا جن کو انہوں نے اپنی خوشبو میں شامل کر لیا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس خوشبو میں یہ بال مبارک شامل تھے اسی میں وہ پسینے کو بھی شامل کر لیتی تھیں۔

(فتح الباری شرح البخاری، کتاب الاستئذان، باب من زار قوما فقال عندهم، تحت

الحدیث: ۱۲۸۱، ج ۶۲۸۱)

غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خود دست مبارک سے ایک ہار پہننا یا تحاواہ اس کی اتنی قدر کرتی تھیں کہ عمر بھر گئے سے جدائیں کیا اور جب انتقال کرنے لگیں تو وصیت کی کہ ان کے ساتھ وہ بھی دن کر دیا جائے۔

(المسند لامام احمد بن حنبل، حدیث امرأة من بنى غفار رضي الله عنها، الحدیث:

(۳۲۴، ج ۱۰، ص ۲۷۲۰۶)

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کرتہ، ایک تہبند ایک چادر، اور چند موئے مبارک تھے، انہوں نے وفات کے وقت وصیت کی کہ یہ کپڑے کفن میں لگائے جائیں اور موئے مبارک منہ اور ناک میں بھر دیئے جائیں۔

(تاریخ الخلفاء، معاویہ بن ابی سفیان، ص ۱۵۸ بتصرف)

رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کپڑوں میں انتقال فرمایا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو محفوظ رکھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یمنی تہبند اور ایک مکبل دکھا کر کہا کہ خدا عزوجل کی قسم! سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہی کپڑوں میں انتقال فرمایا تھا۔

(سنن ابی داؤد، کتابلباس، باب لباس الغلیظ، الحدیث: ۴۰۳۶، ج ۴، ص ۶۳)

ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خرز (اون اور لیشم سے بنا ہوا کپڑا) کا سیاہ عمامہ عطا فرمایا تھا، انہوں نے اس کو محفوظ رکھا تھا اور اس پر فخر کیا کرتے تھے، چنانچہ ایک بار بخارا میں خچر پر سوار ہو کر نکلنے تو عمamہ دکھا کر کہا کہ اس کو رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو عنایت فرمایا تھا۔

(سنن ابی داؤد، کتابلباس، باب ماجاء فی الخرز، الحدیث: ۴۰۳۸، ج ۴، ص ۶۴)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے چند بال مبارک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بطور یادگار کے محفوظ رکھے تھے اور جب کوئی شخص یہمارہ ہوتا تھا تو ایک برتن میں پانی بھر کر بھیج دیتا تھا اور وہ اس میں ان مبارک بالوں کو دھو کر واپس کر دیتی تھیں، جس کو وہ شفا حاصل کرنے کے لئے پی جاتا تھا (یا اس سے غسل کر لیتا تھا)۔

(صحیح البخاری، کتابلباس، باب ما یذکر فی الشیب، الحدیث: ۵۸۹۶، ج ۴، ص ۷۶)

خلافاء ان یادگاروں کی نہایت عزت کرتے تھے، اور ان سے برکت اندوز ہوتے تھے، ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے کسی بھی بادشاہ کے نام خط لکھنا چاہا تو لوگوں نے کہا کہ جب تک خط پر مہر نہ ہو اہل عجم اسکو نہیں پڑھتے، اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی تیار کروائی، جس کے گنینہ پر محمد رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کندہ تھا، اس انگوٹھی کو خلافائے ثلاثہ نے محفوظ رکھا تھا، اخیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک کنوئیں میں گر پڑی، انہوں نے تمام کنوئیں کا پانی نکال ڈالا، لیکن یہ گوہر نیا بند نہ مل سکا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الخاتم، باب ماجاء فی اتخاذ الخاتم، الحدیث: ۴۲۱۴ - ۴۲۱۵، ج ۴، ص ۱۱۹)

حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدے کے صلحہ میں رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے خودا پنی چادر عنایت فرمائی تھی۔ یہ چادر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے صاحبزادہ سے خرید لی اور ان کے بعد تمام خلافاء عبیدین میں وہی چادر اور ٹھکر نکلتے تھے۔ (الاصابة، تذكرة کعب بن زہیر، ج ۵، ص ۴۳)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جس پیالے میں پانی پیتے تھے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھا ایک بار وہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے اسکو چاندی کے تار سے جڑ دیا، اس میں ایک لوہے کا حلقة بھی لگا ہوا تھا، بعد کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سونے یا چاندی کا حلقة لگلوانا چاہا لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس میں تغیر نہیں کرنا چاہئے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے دو اور پیالے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت

عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھے۔

(صحیح البخاری، کتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبي صلی الله علیہ وسلم و آنیتہ، الحدیث: ۵۶۳۷ - ۵۶۳۸، ج ۳، ص ۵۹۵)

ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے گھر میں ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اس کا دہانہ اپنے منہ سے لگایا اور پانی پیا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مشکیزے کے دہانے کو کاٹ کر اپنے پاس بطور یادگار رکھ لیا۔

(طبقات الکبریٰ، تذکرہ ام سلیم بنت ملحان، ج ۸، ص ۳۱۵)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم حضرت شفاء بنت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کبھی کبھی قیولہ فرماتے تھے، اس غرض سے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے لئے ایک خاص بسترا اور ایک خاص تہبند بنا لیا تھا، جسکو پہن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم استراحت فرماتے تھے، یہ یادگاریں ایک مدت تک ان کے پاس محفوظ رہیں۔ اخیر میں مردان نے ان سے لے لیا۔

(اسدالغابة، تذکرہ الشفاء بنت عبد اللہ، ج ۷، ص ۱۲۷)

ان یادگاروں کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی ہر چیز کو یادگار سمجھتے تھا اور لوگوں کو اس کی زیارت کرواتے تھے۔

حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھ کو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم معتمکف ہوتے تھے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الصوم، باب این یکون الاعتكاف؟، الحدیث: ۲۴۶۵، ج ۲، ص ۴۸۹)

ادب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس طرح رسول اللہ عز، جل، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرتے تھے، اس کا اظہار یمنٹکروں طریقہ سے ہوتا تھا، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو دربار نبوت کے ادب و عظمت کے لحاظ سے خاص طور پر کپڑے زیب تن کر لیتے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جمعت علیٰ نیابی حین امسیت فاتیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شام ہوئی تو میں نے تمام کپڑے پہن لئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔

(سنن ابی داود، کتاب الطلاق، باب فی عدة الحامل، الحدیث: ۲۳۰۶، ج ۲، ص ۴۲۷) بغیر طہارت کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اور آپ سے مصافحہ کرنا گوارانہ کرتے، مدینہ کے کسی راستے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہو گیا، ان کو نہانے کی ضرورت تھی، گوارانہ ہوا کہ اس حالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئیں، اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کترائے اور غسل کر کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا: ابو ہریرہ! رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے، بولے مجھے غسل کی حاجت تھی، اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔

(سنن ابی داود، کتاب الطهارة، باب فی الحجب یصافح، الحدیث: ۲۳۱، ج ۱، ص ۱۱۰) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تو فرط ادب سے تصویر بن جاتے،

احادیث میں اسی حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے، کامسا علی رء و سهم الطیر یعنی صحابہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھتے تھے گویا ان کے رسول پر چڑیا بیٹھی ہوتی ہیں۔

(سنن ابی داود، کتاب الطب، باب فی الرجل یتداوی، الحدیث: ۳۸۵۵، ج ۴، ص ۵)

گھر میں بچے پیدا ہوتے تو ادب سے ان کا نام محمد نہ رکھتے، ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے محمد نام رکھا۔ لیکن ان کی قوم نے کہا ہم نہ یہ نام رکھنے دیں گے نہ اس کنیت سے تم کو پکاریں گے تم اس کے متعلق خود رسول اللہ عزوجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کرلو۔ وہ بچے کو لیکر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا، تو ارشاد ہوا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ اختیار کرو۔

(صحیح مسلم ، کتاب الاداب ، باب النہی عن التکنی بایی القاسم.... الخ
الحدیث: ۲۱۳۳، ص ۱۷۸)

اگر راستے میں بھی ساتھ ہو جاتا توا در کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہونا پسند نہ کرتے۔ ایک بار حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خچرہ انک رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سوار کیوں نہیں ہو لیتے۔ لیکن انہوں نے اس کو بڑی بات سمجھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پر سوار ہوں۔ تاہم امتشالا لامر (تعییل حکم کے لیے) تھوڑی دور تک سوار ہو لئے۔

(سنن النسائی، کتاب الاستعازة، ج ۸، ص ۲۵۳)

فرط ادب سے کسی بات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تقدم یا مسابقت گوارانہ

کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں قضاۓ حاجت کے لئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے الگ ہو گئے، نماز فجر کا وقت آگیا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پیشتر ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو ایک رکعت نماز ہو چکی تھی، اس لئے آپ دوسری رکعت میں شریک ہوئے۔ نماز ہو چکی تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو بے ادبی بلکہ گناہ خیال کیا اور سب کے سب کثرت کے ساتھ تشیع کرنے لگے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم نے اچھا کیا۔

(سنن ابی داود، کتاب الطهارة، باب المسح علی الحفین، الحدیث: ۱۴۹، ج ۱، ص ۸۳)

ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی نزاٹ چکانے کے لئے قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت آگیا تو موذن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا کہ نماز پڑھا دیجئے۔ وہ نماز پڑھا رہے تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آکر شریک جماعت ہو گئے۔ لوگوں نے تصفیق کی (بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی انگلیاں اس طرح مارنا کہ آواز پیدا ہو، تصفیق کہلاتا ہے)۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کسی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے، تاہم جب لوگوں نے متصل تصفیق کی تو، تو مژ کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر قائم رہو۔ انہوں نے پہلے تو خدا کا شکر کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت کو پسند فرمایا، پھر پہنچے ہٹ آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ جب میں نے حکم دیا تو تم کیوں اپنی جگہ سے ہٹ آئے؟ بولے کہ ابن ابی قاف کا یہ منہ نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے۔

(سنن ابی داود، کتاب الصلاۃ، باب التصحیق فی الصلاۃ، الحدیث: ۹۴۰، ج ۱، ص ۳۵۴)

ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدل جا رہے تھے، کہ اسی حالت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پر سوار آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدل دیکھا تو خود فرط ادب سے پیچھے ہٹ گئے اور آپ کو آگے سوار کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا تم آگے بیٹھنے کے زیادہ مستحق ہو، البتہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں آگے بیٹھ سکتا ہوں۔

(سنن ابی داود، کتاب الجہاد، باب رب الداہية أحق بصدرها، الحدیث: ۲۵۷۲، ج ۳، ص ۴۰)

اگر کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا تو جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کھانا شروع نہ کرتے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرط ادب سے کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے۔

(سنن ابی داود، کتاب الأطعمة، باب التسمیة علی الطعام، الحدیث: ۳۷۶۶، ج ۳، ص ۴۸۷)

ادب کے باعث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آگے چلنا پسند نہیں کرتے۔ ایک سفر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک سرکش اونٹ پر سوار تھے جو رسول اللہ عزوجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانیا کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے آگے نہ بڑھنے پائے۔

(صحیح البخاری، کتاب الہبة، باب من أهدى له هديةً وعندہ جلساً و.....الخ، الحدیث: ۲۶۱۰، ج ۲، ص ۱۷۹)

کسی چیز میں آپ سے مقابلہ کی جو اس نہ کرتے، ایک بار چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو

قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتے تھے باہم تیر اندازی میں مقابلہ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اے بنو سمعیل! تیر پھینکو کیونکہ تمہارے باپ تیر انداز تھے اور میں فلاں قبیلہ کے ساتھ ہوں۔ دوسرے گروہ کے لوگ فوراً رک گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے پوچھا کہ تیر کیوں نہیں پھینکتے؟ بولے اب کیونکہ مقابلہ کریں جبکہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ فرمایا: تیر پھینکو میں تم سب کے ساتھ ہوں۔

(صحیح البخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب التحریض علی الرمی ، الحدیث:

(۲۸۹۹، ج ۲، ص ۲۸۹۹)

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس لئے رک گئے کہ اگر وہ اپنے فریق پر غالب آگئے اور رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم بھی اس کے ساتھ ہیں تو آپ بھی مغلوب ہو جائیں گے۔ اس لئے انہوں نے ادب سے مقابلہ ہی کرنا چھوڑ دیا، اس ادب و احترام کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی نسبت کسی قسم کا سوء ادب گوارانہ کرتے۔

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب التحریض علی الرمی، تحت الحدیث: (۷۷، ج ۷، ص ۲۸۹۹))

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف لائے تو حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نیچے کے حصے میں اور ان کے اہل و عیال اور پر کے حصے میں رہنے لگے۔ ایک رات حضرت ابوالیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو کہا کہ ہم اور رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے اوپر چلیں پھریں۔ اس خیال سے تمام اہل و عیال کو ایک کونے میں کر دیا۔ صبح کو

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور پر قیام فرمائیں۔ ارشاد ہوا کہ نیچے کا حصہ ہمارے لئے زیادہ موزوں ہے۔

ایک روایت میں ہے حضرت ابوالیوب رضی اللہ عنہ برابر اس بات پر مصروف ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسام اور پر کی منزل میں رہیں اور خود پھلی منزل میں رہیں۔

بولے کہ جس حچت کے نیچے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہوں، ہم اس پر نہیں چڑھ سکتے، لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بالا خانہ پر قیام فرمایا۔

(مدارج النبوت، قسم دوم، باب چہارم، بیان قضیہ هجرت آنحضرت، ج ۲، ص ۶۵)

بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسام سے سن میں بڑے تھے، لیکن ان کو فرط ادب سے یہ گوارا نہ تھا کہ ان کو آپ سے بڑا کہا جائے۔

ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسام؟ بولے بڑے تو رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسام ہیں، البتہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسام سے پہلے پیدا ہوا۔

(سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب ماجاء فی میلاد النبی، الحدیث: ۳۶۳۹، ج ۵، ص ۳۵۶)

اگر نادانتگی میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسام کی شان میں کوئی نامناسب بات نکل جاتی تو اسکی معافی چاہتے۔

ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بچہ مر گیا، اور وہ اس پر روری تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسام کا گزر ہوا، تو فرمایا: خدا سے ڈرو اور صبر کرو، بولیں تمہیں میری مصیبت کی کیا پرواہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسام چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسام تھے، دوڑی ہوئی آئیں اور عرض کی کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسام

کو نہیں پہچانا تھا۔

(سنن ابی داود، کتاب الجنائز، باب الصبر عند الصدمة، الحدیث: ۳۱۲۴، ج ۳، ص ۲۵۸)

اگر کسی دوسرے شخص کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بے ادبی کا خیال ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سخت برہم ہوتے۔ ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت سراۓ القدس میں آئے۔ دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بآواز بلند بول رہی ہیں فوراً طما نچہ اٹھایا اور کہا اب کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہ ہونے پائے۔

(سنن ابی داود، کتاب الأدب، باب ماجاء فی المزاح، الحدیث: ۴۹۹۹، ج ۴، ص ۳۹۰)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک شخص کا کچھ قرض تھا، اس نے گستاخانہ طریقے سے تقاضا کیا، تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس پر برا بیخخت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: رکو! کہ قرض خواہ کو مقرض پر مطالبہ کرنے کا اس وقت تک حق ہے جب تک وہ قرض ادا نہ کرے۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الصدقات، باب لصاحب الحق سلطان، الحدیث: ۲۴۲۵، ج ۳، ص ۱۵۰)

ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے ایک بداؤ یا اور وحشیانہ لہجہ میں آواز بلند کی اور پکارا یا محمد، یا محمد۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا یکیا؟ (اس طرح کہنا) منع ہے۔

(سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب فی فضل التوبۃ والاستغفار.....الخ)

الحدیث: ۳۱۶، ج ۵، ص ۳۵۴

ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ انصار کے خاندانوں میں سب سے افضل بنو جبار ہیں، پھر بنو عبد الاشہل، پھر بنو حارث بن الخزرج، پھر بنو ساعدہ، ان

کے علاوہ انصار کے تمام خاندان اچھے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ قبیلہ بنوساعدہ سے تھے، ان کو جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبیلے کو چوتھا نمبر پر رکھا ہے تو ان کو کسی قدر ناگوار ہوا، بولے میرے گدھے پر زین کسو میں خود رسول اللہ عزوجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق گفتگو کروں گا، لیکن ان کے بھتیجے حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ رسول اللہ عزوجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تردید کے لئے جاتے ہیں؟ حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وجوہ فضیلت کے سب سے زیادہ عالم ہیں، یہ کیا کم ہے کہ آپ کا چوتھا نمبر ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فی خیر دور الانصار.....الخ، الحدیث: ۲۵۱۱، ص ۱۳۶۱)

صلح حدیبیہ کے بعد کافروں کا مسلمانوں میں اختلاط ہو گیا، حضرت سلمہ آئے اور ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، چار مشرک بھی اس جگہ آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پرا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان کو گوارانہ ہو سکا، اٹھ گئے دوسری جگہ چلے گئے، اور چاروں مشرک بھی تلوار کو لٹکا کر سور ہے، اسی حالت میں شور ہوا کہ ابن زین قتل کر دیا گیا حضرت سلمہ نے موقع پا کر تلوار میان سے کھینچ لی، اور چاروں پر حالت خواب میں حملہ کر کے ان کے تمام ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا، اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی تم میں سے جو شخص سر اٹھائے گا اس کا دماغ پاش پاش کر دیا جائے گا۔

(صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب غزوہ ذی قردوغیرہا.....الخ، الحدیث: ۱۸۰۷، ص ۱۰۰۰)

ایک شخص کا نام محمد تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کو گالی دے رہا ہے، بلکہ کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے محمد کو گالی دی جا رہی ہے، اب تادم مرگ تم

اس نام سے پکارنے نہیں جا سکتے، چنانچہ اسی وقت اس کا نام عبد الرحمن رکھ دیا گیا۔ پھر بنو طلحہ کے پاس پیغام بھیجا جو لوگ اس نام کے ہوں ان کے نام بدل دیئے جائیں۔ اتفاق سے وہ لوگ سات آدمی تھے اور ان کے سردار کا نام محمد تھا۔ لیکن انہوں نے کہا: خود رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی نے میرا نام محمد رکھا ہے، بولے اب میرا اس پر کوئی زور نہیں چل سکتا۔

(المسند لامام احمد بن حنبل، حدیث محمد بن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
الحدیث: ۱۷۹۱۶، ج ۴، ص ۲۶۷)

چھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کی شوخی کرتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انکو ڈانت دیتے حضرت ام خالد رضی اللہ عنہا اپنے باپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوئیں، اور بچپن کی وجہ سے خاتم النبیوٰ سے کھیلے گئیں، ان کے والد نے ڈانٹا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھلینے دو۔

(صحیح البخاری، کتاب الجہاد، باب من تکلم بالفارسیة والرطانة،
الحدیث: ۳۰۷۱، ج ۲، ص ۳۳۱)

جو چیزیں شان نبوت کے خلاف ہوتیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے ذکر تک کو سوء ادب پہنچتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب قضا عمرہ ادا فرمایا تو حضرت عبد اللہ بن رواحد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے اشعار پڑھتے چلتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنات تو فرمایا: رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور حدود حرم کے اندر شعر پڑھتے ہو؟ لیکن آپ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسکو مستحسن فرمایا۔

(سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب انشاد الشعر في الحرم والمشى بين يدي الإمام، ج ۵، ص ۲۰۲)

(ترمذی میں ہے کہ اشعار حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے پڑھے تھے اور یہی صحیح بھی ہے)
ایک بار کچھ لوگوں نے جمہ کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کے سامنے شور
وغل کرنا شروع کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منبر
کے سامنے آوازاً وچھی نہ کرو۔

(صحیح مسلم، كتاب الامارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى، الحديث:
(۱۸۷۹، ص ۱۰۴۴)

یہ تنظیم، یہ ادب، یہ عزت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ہی مخصوص نہ
تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کا اسی طرح ادب کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قبر
کے متعلق اختلاف ہوا کہ لحد کھودی جائے یا صندوق، اس پر لوگوں نے شور و غل کرنا
شروع کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے
وفات وحیات دونوں حالتوں میں شور و غلب نہ کرو۔

(سن ابن ماجہ، كتاب الجنائز، باب ماجاء في الشق، الحديث: ۱۵۵۸، ج ۲، ص ۲۴۵)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس ادب واحترام کا منظر صلح حدیبیہ میں عروہ کونظر
آیا تو وہ سخت متأثر ہوا، اس نے صلح سے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی، تو
عرب کے طریقے کے مطابق ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن جب جب

ہاتھ بڑھاتا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ توار کے ذریعہ سے روک دیتے تھے، اس واقعہ سے عروہ کی اس طرف توجہ ہو گئی اور اس نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طرز عمل کو بغور دیکھنا شروع کیا۔ تو اس پر یہ اثر پڑا کہ پلٹا تو کفار سے بیان کیا کہ میں نے قصر و کسری اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب جس قدر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں اس قدر کسی بادشاہ کے رفقاء نہیں کرتے۔ اگر وہ تھوکتے ہیں تو ان لوگوں کے ہاتھوں میں ان کا تھوک گرتا ہے اور وہ اپنے جسم و چہرہ پر اس کو ملتے ہیں، اگر وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو جان شارکرتے ہیں اور وہ لوگ بچے کچے پانی کیلئے باہم لڑ پڑتے ہیں اگر ان کے سامنے بولتے ہیں تو انکی آوازیں پست ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے۔

(صحیح البخاری، کتاب الشروط، باب الشروط فی الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب وكتاب الشروط، الحديث: ۲۷۳۱، ج ۲، ص ۲۲۳)

جائے شاری

صلح حدیبیہ میں جب عروہ نے رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے چہرے اور مخلوق آدمی دیکھتا ہوں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس طنز آمیز فقرہ نے نشتر کا کام دیا اور انہوں نے برہم ہو کے کہا ہم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟

(صحیح البخاری، کتاب الشروط، باب الشروط فی الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب الخ، الحديث: ۲۷۳۱، ج ۲، ص ۲۲۳)

یا ایک قول تھا جس کی تائید ہر موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے عمل سے کی، ابتداء اسلام میں ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے میں مشغول تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھوٹنا چاہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسکو دھکیل دیا اور کہا کہ ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا معبود اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے خدا کی جانب سے دلائل لے کر آیا ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب قول النبی لو کنت

متخذ اخلاقیا، الحدیث: ۳۶۷۸، ج ۲، ص ۵۲۴)

ہجرت کے بعد خطرات اور بھی زیادہ ہو گئے تھے، کفار مکہ کے علاوہ اب منافقین اور یہود نے دشمن ہو گئے تھے، جن کا رات دن ڈر لگا رہتا تھا، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لئے اپنے آپ کو ان تمام خطرات میں ڈال دیتے تھے، چنانچہ ابتداء ہجرت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک شب بیدار ہوئے تو فرمایا کاش آج کی رات کوئی صالح بندہ میری حفاظت کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد تھیار کی جھنجھناہٹ کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنکر فرمایا کون ہے؟ جواب ملا میں سعد بن ابی وقار فرمایا کیوں آئے بولے میرے دل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت خوف پیدا ہوا اس لئے حفاظت کے لئے حاضر ہوا۔

(سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب ابی اسحاق سعد بن ابی وقار،

الحدیث: ۳۷۷۷، ج ۵، ص ۴۱۹)

ان خطرات کی وجہ سے اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لئے بھی آنکھ سے اوچھل ہو جاتے تو جاں ثاروں کے دل دھڑ کنے لگتے تھے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حلقة میں رونق افروز تھے کسی ضرورت سے اٹھے تو پلنے میں دیر ہو گئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم گھبرا گئے کہ خدا نخواستہ دشمنوں کی طرف سے کوئی چشم زخم تو نہیں پہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی پریشانی کی حالت میں گھبرا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جستجو میں النصار کے ایک باغ میں پہنچے۔ دروازہ ڈھونڈا، تو نہیں ملا، دیوار میں پانی کی ایک نالی نظر آئی اس میں گھس کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پریشانیوں کی داستان سنائی۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب دلیل علی أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، الحدیث: ۳۱، ص ۳۷)

غزوہات میں یہ خطرات اور بھی بڑھتے جاتے تھے، اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جاں ثاری میں اور بھی ترقی ہوتی جاتی تھی۔

غزوہہ ذات الرقاع میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کی بیوی کو گرفتار کیا۔ اس نے انقام لینے کے لئے قتم کھالی کہ جب تک اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے زین کرنے نہ کروں گا، چین نہ لوں گا، اس لئے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے، اس نے تعاقب کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منزل پر فروکش ہوئے تو دریافت فرمایا کہ کون میری حرastت کی ذمہ داری اپنے سر لے گا۔ مہاجرین و انصار دونوں میں سے ایک ایک بہادر اس شرف کو حاصل کرنے کے لئے اٹھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ گھاٹی کے دہانے پر جا کر متمکن ہو جائیں (کہ وہی کفار کی کمین گاہ ہو سکتا تھا) دونوں بزرگ وہاں پہنچے تو مہاجر

بزرگ سو گئے اور انصاری نے نماز پڑھنا شروع کی مشرک آیا، اور فوراً تاڑ گیا کہ یہ محافظ اور نگہبان ہیں، تین تیر مارے اور تینوں کے تینوں ان کے جسم میں ترازو ہو گئے۔

(سنن ابی داود، کتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم، الحدیث: ۱۹۸، ج ۱، ص ۹۹)

لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لئے نکل تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے وقت خبر دی کہ میں نے آگے جا کر پہاڑ کے اوپر سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ قبیلہ ہوازن کے زن و مرد چوپایوں اور مویشیوں کو لیکر امنڈ آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، اور فرمایا: کہ اللہ عزوجل نے چاہا تو کل یہ مسلمانوں کے لیے غنیمت ہو گا، اور فرمایا: آج میری پاسبانی کون کرے گا؟ حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں! یا رسول اللہ! عزوجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارشاد ہوا کہ سوار ہو جاؤ، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تو فرمایا کہ اس گھاٹی کے اوپر چڑھ جاؤ۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز فجر کے لئے اٹھے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ تمہیں اپنے شہ سوار کی بھی خبر ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، میں تو کچھ خبر نہیں، جماعتِ قائم ہوئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھاتے جاتے تھے اور مژمر کے گھاٹی کی طرف دیکھتے جاتے تھے۔ نماز ادا کر چکے تو فرمایا: لو مبارک ہو تمہارا شہ سوار آگیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے گھاٹی کے درختوں کے درمیان سے دیکھا تو وہ آپنے اور خدمت مبارک میں حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا: میں گھاٹی کے بلند ترین حصے پر جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مامور فرمایا تھا، چڑھ گیا صبح کو دونوں گھاٹیاں بھی دیکھیں تو ایک جاندار بھی نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نیچے بھی

اترے تھے، بولے صرف نماز اور قضاۓ حاجت کے لئے، ارشاد ہوا: تم کو جنت مل چکی، اس کے بعد اگر کوئی عمل نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔

(سنن ابی داود، کتاب الجهاد، باب فی فضل الحرس فی سبیل اللہ عزوجل،

الحدیث: ۱۴، ج ۳، ص ۲۵۰)

ایک غزوہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک ٹیلے پر قیام فرمایا۔ اس شدت سے سردی پڑی کہ بعض لوگوں نے زمین میں گڑھا کھودا اور اس کے اندر گھس کر اوپر سے ڈھال ڈال دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو فرمایا: کہ آج کی شب میری حفاظت کون کرے گا؟ میں اسکو دعا دوں گا، ایک انصاری نے عرض کیا کہ میں! یا رسول اللہ! عزوجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریب بلا کران کا نام پوچھا اور دریتک دعا دیتے رہے، حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعائی تو عرض گزار ہوئے کہ میں دوسرا نگہبان بنوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریب بلا کران کا نام پوچھا اور ان کو بھی دعا دی۔

(المستدل مام احمد بن حببل، حدیث ابی ریحانہ، الحدیث: ۱۷۲۱۳، ج ۶، ص ۹۹)

آیت کریمہ:

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط
ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ تمہاری نگہبانی
کرے گا لوگوں سے۔
(ب ۶، المائدۃ: ۶۷)

نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لئے پاسبان مقرر کرنا بند کر دیا۔ غزوہ بدرب میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے مقابلے کے لئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو طلب کیا تو حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہم وہ نہیں ہیں جو

موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کھدیں۔ تم اور تمہارا خدا دنوں جاؤ اور لڑو۔ بلکہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جاں ثارانہ فقرے سننے تو چہرہ مبارک فرط سمرت سے پچک اٹھا۔

(صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب قول الله تعالیٰ، الحدیث: ۳۹۵۲، ج ۳، ص ۵)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جاں ثارانہ جذبات کاظہور سب سے زیادہ غزوہ احمد میں ہوا، چنانچہ اس غزوہ میں کسی مقام پر رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف نو صحابہ (جن میں سات انصاری اور دو قریشی یعنی حضرت طلحہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما) رہ گئے۔ اس حالت میں کفار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دفعۃ ٹوٹ پڑے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان جاں ثاروں کی طرف خطاب کر کے فرمایا: کہ جو ان اشقياء کو میرے پاس سے ہٹائے گا اس کے لئے جنت ہے۔ ایک انصاری فوراً آگے بڑھے اور لڑ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو گئے۔ اسی طرح لکفار برابر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرتے جاتے اور آپ بار بار پکارتے جاتے تھے، اور ایک ایک انصاری بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرتا جاتا تھا، یہاں تک کہ ساتوں بزرگ شہید ہو گئے۔

(صحیح مسلم، کتاب الجہاد والسیر، باب غزوہ احمد، الحدیث: ۱۷۸۹، ص ۹۸۹)

حضرت ابو طلحہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جاں ثاری کا وقت آیا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے اپنا ترکش بکھیر دیا، اور فرمایا کہ تیر چھینکو، میرے مال باپ تم پر قربان۔ (صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب ”إذ هممت طائفتين“ منْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَيَعْلَمُمَا“.....الخ، الحدیث: ۴۰۵۵، ج ۳، ص ۳۷)

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپر لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تیر چلانے لگے، اور اس شدت سے تیر اندازی کی کہ دو تین کمانیں ٹوٹ گئیں، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گردن اٹھا کر کفار کی طرف دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں گردن اٹھا کرنے دیکھیں، مبادا کوئی تیر لگ جائے میرا سینہ آپ کے سینہ کے سامنے ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب "إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشِلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا".....الخ، الحدیث: ٤٠٦٤، ج ٣، ص ٣٨)

اس غزوہ میں حضرت شمس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاں ثاری کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دائیں بائیں جس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے ان کی تلوار چمکتی ہوئی نظر آتی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سپر بنالیا، بیہاں تک کہ اسی حالت میں شہید ہوئے۔

(الطبقات الکبریٰ، تذکرہ شمس بن عثمان رضی اللہ عنہ، ج ۳، ص ۱۸۶)

اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن رفیع النصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں روانہ فرمایا، وہ لاشوں کے درمیان ان کو ڈھونڈنے لگے، تو حضرت سعد بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بول اٹھے، کیا کام ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارا ہی پتا لگانے کے لئے بھیجا ہے، بولے جاؤ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میرا اسلام عرض کر دو، اور کہہ دو کہ مجھے نیزے کے بارہ زخم لگے ہیں، اور اپنے قبیلہ میں اعلان کر دو کہ اگر رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے اور ان میں کا ایک تنفس بھی زندہ رہا تو

(الموطلا مالک، کتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد، الحدیث: ۱۰۳۵، ج ۲، ص ۲۴)

نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جاں ثاری کی آرزو رکھتی تھیں، حضرت طلیب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور اپنی ماں اروئی بنت عبد المطلب کو اسکی خبر دی تو بولیں کہ تم نے جس شخص کی مدد کی وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق تھا، اگر مردوں کی طرح ہم بھی استطاعت رکھتیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتیں اور آپ کی طرف سے لڑتیں۔

(الاستیعاب، تذکرہ طلیب بن عمیر، ج ۲، ص ۳۲۳)

خدمتِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو اپنا سب سے بڑا شرف خیال کرتے تھے، اس لئے متعدد بزرگوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا، حضرت بلاں رضی اللہ عنہ نے ابتداء بعثت ہی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خانہ داری کے تمام کاروبار کا انتظام اپنے ذمے لے لیا تھا، اور اس کے لئے طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شرف خدمت کا چھوٹا ناکبھی گوارا نہیں مبارک میں حاضر ہوتا اور اس کے بدن پر کپڑے نہ ہوتے تو حضرت بلاں رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے اور وہ قرض لیکر اسکی خوراک و لباس کا انتظام کرتے۔

ایک بار کسی مشرک سے اس غرض کے لئے قرض لیا۔ لیکن ایک دن اس نے دیکھا تو نہایت سخت لمحہ میں کہا، اوجیشی تجھے معلوم ہے کہ اب مہینے میں کتنے دن رہ گئے ہیں صرف چار دن اسی عرصہ میں قرض وصول کروں۔ ورنہ جس طرح تو پہلے مکریاں چرایا کرتا تھا اسی طرح بکریاں چر واوں گا۔ حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سخت رنج ہوا، عشاء کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مشرک نے مجھے یہ کچھ کہا ہے، اور وہ مجھے ذیل کر رہا ہے، اجازت فرمائیے تو جب تک قرض ادا نہ ہو جائے مسلمان قبل میں بھاگ کر پناہ لوں، گھر واپس آئے تو بھاگنے کا تمام سامان بھی کر لیا، لیکن رزاقِ عالم نے صحیح تک خود قرض کے ادا کرنے کا تمام سامان کر دیا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الخراج والفيء والamarah، باب فی الامام یقبل هدایا المشرکین،
الحدیث: ۵۵۰، ج ۳، ص ۲۳۰)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل تھا، کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں جاتے تو وہ پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جوتے پہناتے، پھر آگے آگے عصا لیکر چلتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں بیٹھنا چاہتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں سے جوتے نکلتے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عصا دیتے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے، پھر اسی طرح جوتے پہناتے، آگے آگے عصا لیکر چلتے، اور جگہ مبارکہ تک پہنچ جاتے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہاتے تو پردہ کرتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوتے تو بیدار کرتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر میں جاتے تو بچھونا، مسوک، جوتا اور وضو کو

پانی انکے ساتھ ہوتا، اس لئے وہ صاحب سواد رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میر سامان کہے جاتے تھے۔

(الطبقات الکبریٰ، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ج ۳، ص ۱۱۳)

حضرت ربیعہ اسلامی رضی اللہ عنہ بھی شب و روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاۃ کی نماز سے فارغ ہو کر دولت سراۓ اقدس میں تشریف لے جاتے تو وہ دروازے پر بیٹھ جاتے کہ مبادا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آجائے۔

ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکاح کرنے کا مشورہ دیا، بولے یہ تعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری میں خلل انداز ہو گا جسکو میں پسند نہیں کرتا۔ لیکن آپ کے بار بار کے اصرار سے شادی کرنے پر رضامند ہو گئے۔

(المسند لامام احمد بن حنبل، حدیث ربیعة بن کعب الاسلامی رضی اللہ عنہ،
الحدیث: ۱۶۵۷۷، ج ۵، ص ۵۶۹)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مستقل خدمت گزار تھے، ان کا کام یہ تھا کہ سفر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹی کو ہانکتے ہوئے چلتے تھے۔ (مدارج النبوت، قسم پنجم، باب چہارم، ج ۲، ص ۴۹۵)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے ان کی والدہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا۔

(الاصابة، انس بن مالک بن النضر، ج ۱، ص ۲۷۶ ملخصاً)

حضرت سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک صحابیہ تھیں، جنہوں نے اس استقلال کے ساتھ

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی کہ انکو خادمہ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب حاصل ہوا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الطب، باب فی الحجامة، الحدیث: ۳۸۵۸، ج ۴، ص ۶)

حضرت سفینہ حضرت سلمی رضی اللہ عنہما کی والدہ کے غلام تھے۔ انہوں نے ان کو اس شرط پر آزاد کرنا چاہا کہ وہ اپنی عمر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری میں صرف کر دیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ شرط نہ بھی کرتیں تب بھی میں تانفس واپسیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت سے عیینہ نہ ہوتا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب العتق، باب العنق علی الشرط، الحدیث: ۳۹۳۲، ج ۴، ص ۳۱)

ان بزرگوں کے علاوہ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہتے تھے ان کو بھی عموماً شرف خدمت حاصل ہوا کرتا تھا، ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لئے بیٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے پانی کا کوزہ لیکر کھڑے رہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عمر کیا ہے؟ بولے کہ وضو کا پانی، فرمایا کہ ہر وقت اس کی ضرورت نہیں۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الطهارة، باب فی الاستبراء ، الحدیث: ۴۲، ج ۱، ص ۴۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہمیشہ خدمت مبارک میں حاضر ہتے تھے انکو اکثر یہ شرف حاصل ہوتا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لئے تشریف لے جاتے تو وہ کسی طشت یا کوزہ میں پانی لاتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الطهارة، باب الرجل يدللك يده بالأرض اذا استنجى،

الحدیث: ۴۵، ج ۱، ص ۵۰)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، چنانچہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے تو وہ پیٹھ پھیر کر کھڑے ہو جاتے اور آپ ان کی آڑ میں نہما لیتے۔

(اسد الغایہ، تذکرہ ابوالسمع مولیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج ۶، ص ۱۶۶)

جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں رمی جمرہ کرنا چاہی تو خدام بارگاہ میں حضرت اسامة اور حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ ساتھ تھے، ایک کے ہاتھ میں ناقہ کی نکیل تھی اور دوسراے بزرگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر اپنا کپڑا تانے ہوئے چلتے تھے کہ آفتاب کی شعائیں چڑھے مبارک لوگوں نگاہوں سے نہ بیکھنے پائیں۔

(سنن ابی داؤد، کتاب المناسک، باب فی المحرم یظلل، الحدیث ۱۸۳۴، ج ۲، ص ۲۴۲)

محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تم کو تمہارے باپ اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تم لوگ (کامل) مونمن نہیں ہو سکتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایمان کا یہی درجہ کمال حاصل تھا، چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب غزوہ احد کی شرکت کے لئے روانہ ہوئے تو بیٹے سے کہا کہ میں ضرور شہید ہونگا اور رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوا مجھ کو تم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ تم میرا قرض ادا کرنا، اپنے بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔

(اسد الغایہ، تذکرہ عبد اللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ، ج ۳، ص ۳۵۴)

اس کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بھی مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے تھے۔

ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جوش محبت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قیص الرٹ دی، اس کے اندر گھسنے کے لئے، آپ کو چوہما، آپ سے لپٹ گئے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الزکاة، باب مالا یجوز منعه، الحدیث: ۱۶۶۹، ج ۲، ص ۱۷۷)

حضرت اسید بن حفییر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شلگفتہ مزانج صحابی تھے، ایک روز ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پہلو میں ایک چھڑی سے کوئی خج دیا، انہوں نے اس کا انتقام لینا چاہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر راضی ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پر کرتا ہے، حالانکہ میرے بدن پر کرتا نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کرتا بھی اٹھادیا، کرتے کا اٹھانا تھا کہ وہ آپ سے لپٹ گئے، کروٹ کو بوسہ دیا، اور عرض کیا: یا رسول اللہ! عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہی مقصود تھا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الأدب، باب فی قبلة الجسد، الحدیث: ۴۵۶، ج ۴، ص ۴۵۶)

جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وفد عبد القیس حاضر ہوا تو سوری سے اترنے کے ساتھ ہی سب کے سب دوڑے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔

(المراجع السابق، باب فی قبلة الرجل، الحدیث: ۵۲۲۵، ج ۴، ص ۴۵۶)

حضرت کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ججۃ الوداع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چوم لئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی

رسالت کا اقرار کیا، اور آپ کی باتیں سنتے رہے۔

(سنن ابی داود، کتاب النکاح، باب تزویج من لم يولد، الحدیث: ۲۱۰۳: ج ۲، ص ۳۴۰)

حضرت زاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدھی صحابی تھے، جو رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے محبت رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، کہ زاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بدھی ہیں اور ہم ان کے شہری ہیں۔

ایک دن وہ اپنا سودا فروخت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے آکر ان کو گود میں لے لیا، انہوں نے کہا کون ہے؟ چھوڑ دو! لیکن مڑکردیکھا اور معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو اپنی پشت کو بار بار آپ کے سینہ سے پھٹاتے تھے اور تسکین نہیں ہوتی تھی۔

(شمسائل ترمذی، باب ما جاء في صفة مزاج رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
الحدیث: ۲۳۸: ج ۵، ص ۵۴۵)

عرب میں یہ خیال تھا کہ اگر کسی کے پاؤں سن ہو جائیں اور وہ اپنے محبوب کو یاد کرے تو یہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے۔ ایک بار حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاؤں سن ہو گئے تو کسی نے کہا اپنے محبوب کو یاد کرو، بولے یا محمدہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) (الأدب المفرد، باب ما يقول الرجل اذا اخذ درت رجله ، الحدیث: ۹۹۳: ج ۹، ص ۲۶۱)

حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک صحابی تھیں، جب وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتیں تو فرط سرت سے کہتیں ”بایی“ یعنی میرے باب آپ پر قربان۔

(سنن النسائی، کتاب الحیض والاستحاضة، باب شہود الحیض العیدین ودعوة المسلمين، ج ۱، ص ۱۹۳)

عزت اور محبت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آرام و آسائش کا نہایت خیال رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی فتنہ کی تکلیف کو وارنہیں کرتے تھے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے جس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پانی ٹھہڑا کرتے تھے۔

(صحیح مسلم، کتاب الزہدو الرفاقت، باب حدیث حابر الطویل، الحدیث ۳۰۰۶، ص ۱۶۰۲)

ایک عورت تھی جو ہمیشہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام میں جھاڑ دیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسکو فون کر دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع نہ دی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا، کہ مجھے کیوں نہیں خبر کی ہو لے ہم نے تکلیف دینا گوارانہ کیا، اسی طرح ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہ کی اور کہا کہ اندر ہیری رات تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سوت ہوتی۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی الصلة علی القبر، الحدیث:

۱۵۲۸ - ۱۵۳۰، ج ۲، ص ۲۳۳ - ۲۳۴)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز محبوب ہوتی وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی محبوب ہو جاتی۔ ”کدو“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھا اس لئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی اس کو نہایت پسند فرماتے تھے، چنانچہ ایک روز کدو کھار ہے تھے تو خود بخود بول اٹھے، اس بنا پر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے محبت تھی، تو مجھے کس قدر محبوب ہے۔

(سنن الترمذی، کتاب الاطعمة، باب ماجاء فی اکل الدباء، الحدیث: ۱۸۵۶، ج ۳، ص ۳۳۶)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک آپ کی ہر چیز کو محبوب بنادیا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر کام کی ابتداء داہنے جانب سے فرماتے۔

ایک بار حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باشیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور حضرت خالد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باشیں جانب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دودھ لائیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پی کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ حق تو تمہارا ہی ہے لیکن اگر ایسا رکرو تو خالد کو دے سکتے ہو۔ بولے، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا کسی کو نہیں دے سکتا۔ (سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ما يقول اذا اكل طعاماً،

الحدیث: ۳۴۶۶، ج ۵، ص ۲۸۳)

ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی یا دودھ پی کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو عنایت فرمایا۔ بولیں: میں اگر چہ روزے سے ہوں لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا واپس کرنا پسند نہیں کرتی ہوں۔ (المسنون لامام احمد بن حنبل، حدیث ام ہانی بنت ابی طالب واسمہا فاختة، الحدیث: ۲۶۹۵۸، ج ۱۰، ص ۲۶۰)

ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت مبارک میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھار ہے تھے، ان کو بھی شریک کرنا چاہا، وہ روزے سے تھے اس لئے ان کو افسوس ہوا کہ ہائے رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا نہ کھایا۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الاطعمة، باب عرض الطعام، الحدیث: ۳۲۹۹، ج ۴، ص ۲۶)

تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوتا تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو

رُنْخٌ هُوتَا، آپ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَوْخُوشٌ هُوتَى تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس میں شریک ہوتے۔ آپ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ایک مہینے کے لئے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مسجد میں آکر گریہ وزاری شروع کر دی۔

(صحیح مسلم، کتاب الطلاق، باب فی الایاء و اعتزال النساء...الخ، الحدیث: ۱۴۷۹، ص ۷۸۴)

آپ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے جب مرض الموت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام بنانا چاہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ وہ رقین القلب آدمی ہیں۔ جب آپ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کونہ دیکھیں گے تو خود روئیں گے، اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوة، باب ماجاء فی صلاة رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی مرضه، الحدیث: ۱۲۳۲، ج ۲، ص ۷۴)

حضرت عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فیاض صحابی تھے، ان کو آپ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے اس قدر محبت تھی کہ جب آپ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نکاح کرتے تو وہ آپ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی جانب سے دعوت و لیمة کرتے۔

(اصابة، تذكرة عمرو بن الجموح، ج ۴، ص ۵۰۷)

آپ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جب کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن فرط محبت سے آپ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی واپسی اور سلامتی کے لئے نذریں مانتی تھیں۔

ایک بار آپ جب کسی غزوہ سے واپس آئے تو ایک صحابیہ (جاریہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے کہا کہ یا رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَآلِهِ وَسَلَّمَ میں نے نذر مانی تھی کہ اگر خدا

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح و سالم واپس لائے گا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دف بجا کے گاؤں گی۔

(سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب ابی حفص عمر بن خطاب ، الحدیث:

(۳۷۱، ج ۵، ص ۳۸۶)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عموماً فتورو فاقہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کا یہ منظر آجاتا تو فرط محبت سے آبدیدہ ہو جاتے۔

ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ دولت سرانے اقدس میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، جس پر کوئی بستر نہیں ہے۔ جسم مبارک پر تہبند کے سوا کچھ نہیں، پہلو میں چٹائی کے شناخت پڑے ہیں، تو شہ خانہ میں مٹھی بھر جو کے سوا اور کچھ نہیں، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے، ارشاد ہوا کہ عمر کیوں روتے ہو؟ بولے، کیوں نہ روؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت ہے اور قیصر و کسری دنیا کے مزے اڑا رہے ہیں، فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ہمارے لئے آخرت اور ان کے لئے دنیا ہو۔

(صحیح مسلم، کتاب الطلاق، باب فی الایلاء واعتزال النساء و تخییرهن،

الحدیث: ۱۴۷۹، ج ۱، ص ۷۸۴)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت یاد آتی تھی تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے تھے۔

ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چپا تیاں آئیں تو دیکھ کر رو

پڑے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے بھی چپا تی نہیں دیکھی۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الاطعمة، باب الرقاد، الحدیث: ۳۳۸، ج ۴، ص ۴۳)

ایک دن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کو گوشت روٹی کھلایا تو روپڑے اور کہا کہ رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بھی ہو گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ بھر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی۔

(شمسائل ترمذی، باب ماجاء فی عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم ، الحدیث: ۳۷۸، ج ۵، ص ۵۷۵)

اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز سے ممتنع نہ ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس سے ممتنع ہونا پسند نہ کرتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کے کفن کے لئے ایک حلہ خریدا گیا لیکن بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسرا کپڑے میں کفنائے گئے، اور یہ حلہ حضرت عبد اللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے لے لیا کہ اس کو اپنے کفن کے لئے محفوظ رکھیں گے لیکن پھر کہا کہ جب خدا عز وجل کی مرضی نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کفن ہو، تو میرا کیوں ہو۔ یہ کہہ کر اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دی۔

(صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب فی کفن المیت، الحدیث: ۹۴۱، ج ۶۹، ص ۴۶۹)

غزوہ توبک سخت گرمیوں کے زمانے میں واقع ہوا تھا، حضرت ابو خیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اس غزوہ میں شریک نہ ہو سکے تھے ایک دن وہ گھر میں آئے تو دیکھا کہ ان کی ازواج نے ان کی آسائش کے لئے نہایت سامان کیا ہے، بالآخر نے پر چھڑکا دیا ہے، پانی سرد کیا ہے، عمدہ کھانا تیار کیا ہے لیکن وہ تمام سامان عیش دیکھ کر

بُو لے رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس لاوار گرمی میں کھلے ہوئے میدان میں ہوں اور ابو خیثہ سایہ، سرد پانی، عمدہ غذا اور خوبصورت عورتوں کے ساتھ لطف اٹھائے خدا عزوجل کی قسم! یہ انصاف نہیں ہے، میں ہرگز بالا خانہ پر نہ آؤں گا چنانچہ اسی وقت زادراہ لیا اور تبوک کی طرف روانہ ہو گئے۔

(اسد الغابة، تذكرة مالک بن قیس بن خیشمة، ج ۵، ص ۴۷)

وصال کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد آتے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بے اختیار روپڑتے۔ ایک دن حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: اور جمعرات کا دن کس قدر سخت تھا، اس کے بعد اس قدر روئے کہ زمین کی کنکریاں آنسو سے تر ہو گئیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جمعرات کا دن کیا؟ بُو لے اسی دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت میں شدت آئی تھی۔

(صحیح مسلم، کتاب الوصیۃ، باب ترك الوصیۃ لمن ليس له شئ یوصی فیه،
الحدیث: ۱۶۳۷، ص ۸۸۸)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحبتوں کی یاد آتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے۔ ایک بار حضرت ابو بکر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما النصار کی ایک مجلس میں گئے تو دیکھا کہ سب لوگ رور ہے ہیں، سبب پوچھا تو بُو لے کہ ہم کو سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس یاد آگئی، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کے زمانہ کا ہے، جس میں انصار کو یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر اس مرض میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو تو آپ کی مجلس میسر نہ ہوگی، اس لئے وہ اس غم میں روپڑے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرماتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔

(الطبقات الکبریٰ، تذکرہ عبداللہ بن عمر بن خطاب، ج ۴، ص ۱۲۷)

قرابت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و محبت

رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کرام اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی نہایت عزت و محبت کرتے تھے۔ ایک بار حضرت امام باقر، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم کی خدمت میں جستہ الوداع کی کیفیت پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ اس وقت اگرچہ وہ بحیثیت طالب العلم اور نیازمندانہ آئے تھے، تاہم حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہایت تپاک سے ان کا خیر مقدم کیا پہلے ان کے سر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ان کی گھنڈی کھولی، سینے پر ہاتھ رکھا اور مر جبا کہا، پھر اصل مسئلے پر گفتگو کرنے کی اجازت دی۔

(سنن ابی داؤد، کتاب المنساک، باب صفة حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
الحدیث: ۱۹۰۵، ج ۲، ص ۲۶۵)

ایک بار ایک عراقی نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ چھر کا خون جو کپڑے پر لگ جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بولے ان کو دیکھو رسول اللہ عزوجل و
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو تو شہید کر ڈالا اور چھر کے خون کا سوال کرتے ہیں۔

(سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسین رضی اللہ عنہما،
الحدیث: ۳۷۹۵، ج ۵، ص ۴۲۷)

رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے چند روز بعد ایک دن حضرت

ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزرے دیکھا کہ حضرت حسن علی جدہ وعلیہ السلام کھیل رہے ہیں، اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور یہ شعر پڑھا

وَا ! بَابِي شَبِيهُ النَّبِيِّ لِيسْ شَبِيهَهَا بَعْلَى

میرے باپ تم پر قربان کہ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمشکل ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ نہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بھی ساتھ تھے وہ بنس پڑے۔

(المسند لامام احمد بن حنبل،مسند ابی بکر الصدیق ، الحدیث: ۴۰، ج ۱، ص ۲۸)

ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن علی جدہ وعلیہ السلام سے ملنے اور کہا کہ ذرا پیٹ کھو لئے جہاں رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا تھا وہیں میں بھی بوسہ دوں گا، چنانچہ انہوں نے پیٹ کھولا اور انہوں نے وہیں بوسہ دیا۔

(المسند لامام احمد بن حنبل،مسند ابی هریرہ، الحدیث: ۹۵۱۵، ج ۳، ص ۴۱۵)

ایک بار بہت سے لوگ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ و السلام میں بیٹھے ہوئے تھے،اتفاق سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھی اور سلام کیا، سب نے سلام کا جواب دیا لیکن حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، جب سب چپ ہوئے تو آواز بلند کہا السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ کر سب کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میں تمہیں بتاؤں کہ زمین کے رہنے والوں میں، آسمان والوں کو سب سے محبوب شخص کون ہے؟ یہی جو جاہا ہے، جنگ صفين کے بعد سے انہوں نے مجھ سے بات چیت نہیں کی، اگر وہ مجھ سے راضی ہو جائیں تو یہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔

(اسد الغابة،تذکرہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص، ج ۳، ص ۳۵۸)

حضرت ابوالطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بہت بڑے حامی تھے،
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے انتقال کے بعد ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان سے پوچھا کہ تمہارے دوست ابو الحسن کے غم میں تمہارا کیا حال ہے؟ بولے، موتی
علی السلام کے غم میں جو حال ان کی ماں کا تھا۔

(اسد الغابة، تذکرہ ابو طفیل عامر بن واٹلہ، ج ۶، ص ۱۹۲)

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کا مطالہ کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
نے رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کے حقوق جتائے تو حضرت ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جو تقریر کی اس میں خاص طور پر اہل بیت کی محبت کا بیان
کیا اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ عزوجل و
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کے حقوق کا لحاظ مجھے اپنی قرابت سے زیادہ ہے۔ اُن
لوگوں کو بھی ان کے حقوق کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا۔

(صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب قرابۃ رسول الله صلی

الله تعالیٰ علیہ وسلم، الحدیث: ۳۷۱۲، ج ۲، ص ۵۳۸)

ایک بار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معاملہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے اصرار کیا اور کہا کہ یا امیر المؤمنین! اگر مویں علی السلام کے چچا آپ کے پاس
مسلمان ہو کرتے تو آپ کیا کرتے، بولے انکے ساتھ حسن سلوک کرتا حضرت عباس
نے کہا تو پھر میں رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہوں، بولے اے ابو الفضل
آپ کی کیا رائے ہے، خدا عزوجل کی قسم! آپ کے باپ مجھے اپنے باپ سے زیادہ

محبوب ہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میرے باپ سے زیادہ محبوب تھے اور میں رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دیتا ہوں۔

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو بنو ہاشم نے الگ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ انصار کی تمام آبادیوں میں اس کا اعلان کروادیا۔ لوگ اس کثرت سے جمع ہوئے کہ کوئی شخص تابوت (جنازہ مبارک) کے پاس نہیں جا سکتا تھا، خود بنو ہاشم کے لوگوں نے اس طرح گھیر لیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سپاہیوں کے ذریعے سے ان کو ہٹایا۔ (الطبقات الکبریٰ، تذکرہ عباس بن عبدالمطلب، ج ۴، ص ۲۳)

عرب میں جب قحط پڑتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وسیلہ سے بارش کی دعماں نگتے تھے، اور کہتے تھے کہ خداوند اہم پہلے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے اور تو پانی بر ساتا تھا، اور اب اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پچار ضمی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بناتے ہیں، ہمارے لئے پانی بر سا۔

(صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب ذکر العباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه، الحدیث: ۳۷۱۰، ج ۲، ص ۵۳۷)

ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفاء بنت عبد اللہ العدویہ کو بلا بھیجا، وہ آئیں تو دیکھا کہ عاتکہ بنت اسید پہلے سے موجود ہیں، کچھ دری کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو ایک ایک چادر دی، لیکن شفاء کی چادر کم درجہ کی تھی، اس لئے انہوں نے کہا کہ میں عاتکہ سے زیادہ قدیم الاسلام اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پچازاد بہن ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خاص اس غرض کے لئے بلا یا تھا اور عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

تو یونہی آگئی تھیں، بولے میں نے یہ چار تمہیں ہی دینے کے لئے رکھی تھی، لیکن جب عاتکہ آگئیں تو مجھے رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قربابت کا لحاظ کرنا پڑا۔

(الاصابة في تمييز الصحابة، كتاب النساء، تذكرة عاتكة بنت اسید، الحديث:

(١٤٥٠، ج ٨، ص ٢٢٦-٢٢٧)

حضرت ہند بن ابی ہالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے، صرف اتنے تعلق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش فرمائی تھی، جب ان کے بیٹے کا بصرہ میں بمرض طاعون انتقال ہوا تو پہلے ان کا جنازہ نہایت کسپرسی کی حالت میں اٹھایا گیا، لیکن اس حالت کو دیکھ کر ایک عورت نے پکارا: وَا هَنْدَ بْنَ هَنْدَاهْ وَابْنَ رَبِيبِ رَسُولِ اللَّهِ (بَأَنَّ هَنْدَ بْنَ هَنْدَاهَ أَنَّهُ مَرْدُواً كَمَرْدَهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَ فَرِزَنْدَ) یہ سننا تھا کہ لوگ اپنے مردوں کی تجھیں و تکفین چھوڑ کر ان کے جنازہ میں شریک ہو گئے۔

(الاستيعاب في معرفة الصحابة، باب هند، تذكرة هند بن هالة التمييسي، ج ٤، ص ١٠٦)

قبیلہ بنوزہرہ میں چونکہ رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نہال تھی، اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس قبیلہ کے پاس خاطر کا نہایت لحاظ کرتی تھیں، چنانچہ وہ حضرت عبد اللہ بن زیر رضی اللہ عنہما سے خفا ہوئیں تو انہوں نے اسی قبیلہ کے چند بزرگوں کو شفیع بنایا۔

(صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب مناقب قریش، الحديث: ٣٥٠٣، ج ٢، ص ٤٧٥)

رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و محبت

رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں سے محبت رکھتے تھے صحابہ کرام

رخی اللہ تعالیٰ عنہم بھی انکی نہایت تو قیر و عزت کرتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامة بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطیہ سماڑھے تین ہزار اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تین ہزار مقرر فرمایا، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد پر کیوں ترجیح دی، وہ تو کسی جنگ میں محمد سے آگے نہ رہے۔ بولے، اسامة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ تمہارے باپ سے زیادہ رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھے اور اسامة حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب تھے، اس لئے میں نے اپنے محبوب پر رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب کو ترجیح دی۔

(سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب زید بن حارثہ، الحدیث: ۳۸۳۹، ج ۵، ص ۴۴۵)

ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے گوشے میں دامن گھسیتا ہوا پھر رہا ہے، بولے یہ کون شخص ہے؟ ایک آدمی نے کہا: آپ ان کوئیں پہچانتے؟ یہ محمد بن اسامة ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ سنکر گردان جھکالی، اور زمین پر ہاتھ مار کر کہا: اگر رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھتے تو ان سے محبت فرماتے۔

(صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب ذکر اسامة بن زید، الحدیث: ۳۷۳۴، ج ۲، ص ۵۴۳)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہ صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کی عزت کرتے تھے بلکہ آپ نے جن غلاموں کو آزاد کر کے اپنا مولیٰ (آزاد کردہ غلام) بنالیا تھا ان کے ساتھ بھی نہایت لطف و مدارات کے ساتھ پیش آتے تھے۔

ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن غلاموں کے ناک کان کاٹ لئے گئے ہیں یا ان کو جلا دیا گیا ہے، وہ آزاد ہیں، اور وہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مولیٰ ہیں۔ لوگ یہ سن کر ایک خواجہ سرا کو لے جس کا نام سندر تھا، آپ نے اس کو آزاد کر دیا، آپ کی وفات کے بعد وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانہ خلافت میں آتا تو دونوں بزرگ اس کے ساتھ عمده سلوک کرتے، اس نے ایک بار مصر جانا چاہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے موافق اس کے ساتھ عمده سلوک کرنا۔

(المسنند لامام احمد بن حنبل، حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص، الحدیث: ۶۷۲۲، ج ۲، ص ۶۰۳)

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اور اس کے اہل و عیال کی بیت المال سے کفالت کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مصر کو لکھا تھا کہ اس کو کچھ میں دے دی جائے۔ (المرجع السابق)

لیکن اس روایت میں اس کے نام کی تصریح نہیں ممکن ہے یہ کوئی دوسرے اغلام ہو۔

شوقِ زیارتِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شوقِ زیارت سے لمبیز تھے اس لئے جب زیارت کا وقت قریب آتا تو یہ جذبہ اور بھی اپنے جاتا، اور اس کا اظہار مقدس نغمہ سنجی کی صورت میں ہوتا۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب اپنے رفقاء کے ساتھ مدینہ پہنچے تو سب

کے سب ہم آہنگ ہو کر زبان شوق سے یہ رجز پڑھنے لگے

غدا نلقی الاحبہ محمدما و حزیبہ

ہم کل اپنے دوستوں یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے گروہ سے ملیں گے۔
مصطفیٰ کی رسم سب سے پہلے ان ہی لوگوں نے ایجاد کی جو اظہار شوق و محبت کا
ایک لطیف ذریعہ ہے۔

دربار نبوت کی غیر حاضری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک بڑا جرم تھا۔ ایک دن
خذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے پوچھا کہ ”تم نے کب سے رسول اللہ عزوجل و علیہ السلام کی زیارت نہیں کی۔“ بولے، اتنے دنوں سے۔“ اس پر انہوں نے ان کو برا بھلا
کھاتو بولے۔ چھوڑو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہوں، ان کے
ساتھ نماز مغرب پڑھوں گا اور اپنے اور تمہارے لئے استغفار کی درخواست کروں گا۔

(سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسین رضی اللہ عنہما،

الحدیث: ۶، ۳۸۰، ج ۵، ص ۴۳۱)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہی شوق تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کی طرف کھینچ لاتا تھا۔ ایک بار حضرت ابو ایوب
انصاری رضی اللہ عنہ آئے اور مزار پاک پر اپنے رخسار رکھ دیئے۔ مروان نے دیکھا تو
کہا، کچھ خبر ہے، یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہوں۔ (المسنند للإمام احمد بن حنبل، مسنند ابی

ایوب انصاری، الحدیث: ۶، ۲۳۶۴، ج ۹، ص ۱۴۸)

شوقِ دیدارِ رسول

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایمان کا باعث ہوتا تھا اس بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے نہایت مشتق رہتے تھے۔ جب سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو تشنگان دیدار میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبیس دیکھا تھا وہ آپ کو پہچان نہ سکے لیکن جب دھوپ آئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے اوپر اپنی چادر کا سایہ کیا، تو سب نے اس سایہ میں آفتاب نبوت کی دید سے اپنا ایمان تازہ کیا۔

(صحیح البخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي صلی الله علیہ وسلم واصحابہ الى المدينة، الحدیث: ۳۹۰۶، ج ۲، ص ۵۹۳)

ججۃ الوداع میں مشتا قان دیدار نے آفتاب نبوت کو ہالے کی طرح اپنے حلے میں لے لیا، بدھ، آکر شربت دیدار سے سیراب ہوتے تھاوہ کہتے تھے: ”یہ مبارک چورہ ہے۔“ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت کے زمانہ میں جب جھرہ مبارکہ کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حالت نماز میں ملاحظہ فرمائے تو اس آخری دیدار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر مسرت کی وہ کیفیت طاری ہوئی کہ سوچا نماز ہی توڑ دیں اور اس جمال بے مثال کا آج جی بھر کر نظارہ کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

کأن وجهه ورقه مصحف مارأينا منظرا كان اعجب الينا من وجہ النبي صلی الله علیہ وسلم حين وضح لنا۔ (صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب اهل العلم والفضل احق بالامامة ، الحدیث: ۱۸۱، ج ۱، ص ۲۴۳)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا چہرہ قرآن کے ورق کی طرح صاف تھا، ہم نے کوئی منظر ایسا نہ دیکھا جو تمیں رخ انور کے اس منظر سے زیادہ خوشگوار ہو جب چہرہ مبارک ہم پر نمودار ہوا۔

بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آنکھیں صرف اس لئے عزیز تھیں کہ ان کے ذریعے رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا۔ لیکن جب خدا عزوجل نے ان کو اس شرف سے محروم کر دیا تو، وہ آنکھوں سے بھی بے نیاز ہو گئے۔

ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں جاتی رہیں، لوگ عیادت کو آئے تو انہوں نے کہا کہ ان سے نقصود تو صرف رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا دیدار تھا۔ لیکن جب آپ کا وصال ہو گیا تو اگر میرے عوض تباہ کی ہر نیا اندھی ہو جائیں اور میری بینائی لوٹ آئے تو بھی مجھے پسند نہیں۔

(الادب المفرد، باب العيادة من الرمد، الحدیث: ۳۴۳، ۵، ص ۱۵۳)

شوقِ صحبتِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم

رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فیض ایک ایسی دولت جاؤ دانی تھا جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر قسم کے دنیوی مال و ممتاع کو قربان کر دیتے تھے۔
ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک مہم پر بھیجنा چاہتا ہوں، خدا عزوجل مال غنیمت دے گا تو تم کو معتمد ہو سکے دوں گا۔ بولے، میں مال کے لئے مسلمان نہیں ہو اس صرف اس لئے اسلام لایا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فیض صحبت حاصل ہو۔

(الادب المفرد، باب المال الصالح للمرء الصالح، الحدیث: ۲۳۰، ص ۹۶)

جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دنیوی تعلقات سے آزاد ہو جاتے تھے وہ صرف آستانہ نبوت سے واپسی پیدا کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوتے تھے۔ حضرت قبیلہ رضی اللہ عنہا یہود ہو گئیں تو بچوں کو ان کے چڑانے لے لیا۔ اب وہ تمام دنیوی جھگڑوں سے آزاد ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خدمت مبارک میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی تعلیمات و تلقینات سے عمر بھر فائدہ اٹھاتی رہیں۔ (الطبقات الکبریٰ، تذکرہ قیلۃ بنت مخرمة، ج ۸، ص ۲۴۰)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قدر دور مقام عالیہ میں رہتے تھے اس لئے روزانہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے فیض صحبت سے مستثن نہ ہو سکتے تھے۔ تاہم یہ معمول کر لیا تھا کہ ایک روز خود آتے تھے اور دوسرے روز اپنے اسلامی بھائی حضرت عقبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات سے محروم نہ رہنے پائیں۔

(صحیح البخاری، کتاب العلم، باب التناوب فی العلم، الحدیث: ۵۰، ج ۱، ص ۸۹)

دنیا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فیض صحبت اٹھانے کے ساتھ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خواہش کی کہ آخرت میں بھی یہ دولت جاؤ دانی نصیب ہو، حضرت ربعیہ بن کعب اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہی تمنا ظاہر کی اور مژده جانفرزا سے سرفراز ہوئے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی صحبت کا اثر

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چونکہ نہایت خلوص و صفائی قلب کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اور ہدایت سے فیض یا ب ہونے کے لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اس لئے ان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا اثر شدت سے پڑتا تھا، ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، زہدو آخرت کا خیال غالب ہو جاتا ہے، پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں اہل و عیال سے ملتے جلتے ہیں اور پکوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بات باقی نہیں رہتی۔“ ارشاد ہوا کہ اگر یہی حالت قائم رہتی تو فرشتے خود تھارے گھروں میں تمہاری زیارت کو آتے۔

(سنن الترمذی، کتاب صفة الجنۃ، باب ماجاء فی صفة الجنۃ و نعیمہ، الحدیث:

۲۵۳۴، ج ۴، ص ۲۳۶)

ایک بار حضرت حنظله اسیدی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے روتے ہوئے گزرے، دریافت حال پر بولے ”حنظله منافق ہو گیا، ہم رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کی تصویر کھج جاتی ہے۔ پھر گھر میں آکر اہل و عیال سے ملتے ہیں اور کھینتی باڑی کے کام میں مصروف ہوتے ہیں تو اس حالت کو بھول جاتے ہیں۔“ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے، چلو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا تو سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ حالت قائم رہتی تو فرشتے تمہاری مجلسوں میں، تمہارے بستروں پر، اور تمہارے راستوں میں آکر

تم سے مصافحہ کرتے۔ اس حالت کا ہمیشہ قائم رہنا ضروری نہیں۔

(سنن الترمذی، کتاب صفة الجنۃ، باب ۱۲۴، الحدیث: ۲۵۲۲، ج ۴، ص ۲۳۰)

استقبال رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ کیستھ طبل و علم، لا و لشکر خیمه و خرگاہ کچھ نہ تھا، صرف سواری کی دواوینیاں تھیں، اور ساتھ میں ایک جان شارفیق سفر تھا لیکن یہ بے سروسامان قافلہ جس دن مدینہ پہنچا، مدینہ مسیرت کدہ بن گیا۔ عورتوں، بچوں اور لوئندیوں کی زبان پر یہ فقرہ تھا، رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ ہجرت کی خبر پہلے سے مدینہ میں پہنچ گئی تھی اس لئے تمام مسلمان صحڑت کے گھر سے نکل کر مدینہ کے باہر استقبال کے لئے جمع ہوتے، دوپہر تک انتظار کر کے واپس چلے جاتے۔

ایک دن حسب معمول لوگ انتظار کر کے چلے گئے تو ایک یہودی نے قلعے سے دیکھ کر بآواز بلند پکارا کہ اہل عرب! التمحارے صاحب آپنچھ، تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دفعۃ امنڈ پڑے اور ہتھیاروں سے سچ کر گھروں سے نکل آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قباء میں تشریف لائے اور خاندان بن عمرو بن عوف کے بیہاں اترے تو تمام خاندان نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ انصار ہر طرف سے آتے اور جوش عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے۔

(الطبقات الکبریٰ، تذکرہ خروج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر الی المدینہ للہجرۃ، ج ۱، ص ۱۸۰)

انصار میں جن لوگوں نے رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب تک نہیں دیکھا تھا، وہ

شوقي دیدار میں بے تاب تھے۔ لیکن آپ کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دھوپ سے بچانے کے لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر چادر تانی، تو سب کو اس کے سایہ میں آفتاب نبوت نظر آیا۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ کی خاص آبادی کی طرف چلے تو جاں شاروں کا جھرمٹ ساتھ تھا۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور انصار کو طلب فرمایا۔ سب لوگ حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، اور کہا کہ سوار ہوں، کوئی خطرہ نہیں۔ ہم لوگ فرمائیں برداری کے لئے حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور انصار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اگردو تھیار باندھ ہوئے تھے۔

قباء سے مدینہ تک دو روئیے جاں شاروں کی صفائی تھیں۔ راہ میں انصار کے خاندان آتے تو ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا کہ حضور یہ گھر ہے، یہ مال ہے۔ کو کب بیوت شہر کے متصل پہنچا تو ایک عام غل پڑ گیا۔ لوگ بالاخانہ سے جھاٹک جھاٹک کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے: ”رسول اللہ آئے، رسول اللہ آئے“۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)

(صحیح البخاری، کتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبی واصحابہ الى المدينة،

الحدیث: ۳۹۱۱، ج ۲، ص ۵۹۶)

پردہ نشین خواتین جوش مسرت میں پر ترانہ گاتی تھیں

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

”کوہ وداع کی گھاٹیوں کے برج سے بدر کامل طلوع ہوا ہے۔ جب تک دعا

کرنے والے دعا کریں ہم پر شکر واجب ہے۔“

جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اوثقی حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھ گئی تو قبیلہ بنو نجارتی کی بچیاں دف بجا جا کر یہ شعر گانے لگیں۔

نَحْنُ جُوَارُ مَنْ بَنِي النَّجَارِ يَا حَبْذَا مُحَمَّدًا مِنْ جَارِ

”هم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کیسے اچھے ہم سایہ ہیں۔“

(وفاء الوفاء، الباب الثالث، الفصل الحادی عشر، ج ۱، ص ۲۶۲)

ضیافتِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

اگر خوش قسمتی سے کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت و میزبانی کا شرف حاصل ہو جاتا تو وہ نہایت عزت و محبت اور ادب و احترام کے ساتھ اس فرض کو بجالاتے تھے۔

ایک بار ایک انصاری نے خدمت مبارک میں گزارش کی کہ نہایت حیم و شیم آدنی ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، آپ میرے مکان پر تشریف لا کر نماز ادا فرمائیے تاکہ میں اس طرح نماز پڑھا کروں، انھوں نے پہلے کھانا بھی تیار کر رکھا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور دور کعت نماز ادا فرمائی۔

(سنن ابنی داود، کتاب الصلوة، باب الصلوة علی الحصیر، الحدیث: ۶۵۷، ج ۱، ص ۲۶۳)

ایک روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ حضرت ابو یثم بن تیہان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، وہ باہر گئے ہوئے تھے۔ آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور قربان

ہونے لگے، پھر سب کو باغ میں لے گئے، فرش بچھایا، اور کھجوریں توڑ کر آپ کے سامنے رکھ دیں کہ خود دست مبارک سے چن کرتا نوال فرمائیں، اس کے بعد اٹھے اور بکری ذبح کی اور سب نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔

(سنن الترمذی، کتاب الزهد، باب ماجاء فی معيشة اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
الحدیث: ۳۲۷۶، ج ۴، ص ۱۶۳)

ایک روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے جانے کا وعدہ کیا، انہوں نے نہایت اہتمام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی دعوت کا سامان کیا۔ اور زوجہ سے کہا، دیکھو رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ علیہ والہ وسلم آنے والے ہیں تمہاری صورت نظر نہ آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ دینا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے بات چیت نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تشریف لائے تو بستر بچھایا، تکیر لگایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم مصروف خواب استراحت ہوئے، تو غلام سے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے جانے سے پیشتر بکری کے اس بچے کو ذبح کر کے پکالو، ایسا نہ ہو کہ آپ منہ ہاتھ دھونے کے ساتھ ہی روانہ ہو جائیں۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم بیدار ہو کر منہ ہاتھ دھونے سے فارغ ہوئے تو فوراً دستر خوان سامنے آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کھانا کھاتے تھے اور قبیلہ بنو سلمہ کے تمام لوگ دور ہی دور سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتے تھے، کہ قریب آتے تو شاید آپ کو تکلیف ہوتی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کھانے سے فارغ ہو کر روانہ ہوئے، تو ان کی زوجہ نے پردہ میں سے عرض کیا: یا رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم مجھ پر اور میرے شوہر پر نزول رحمت کی دعا کرتے جائیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ

وَلَمْ نَفْرُمْيَا، خَدَاعِزْ جَلْ قَمْ پَرَاوَرْ تَهَمَّارَے شُوْهَرْ پَرْ رَحْمَتْ نَازَلْ فَرَمَّاَيَ.

ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کرایا۔ نہانے کے بعد عفرانی رنگ کی چادر اڑھائی، پھر کھانا کھلایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہوئے تو سواری حاضر کی، اور اپنے بیٹے کو ساتھ کر دیا کہ گھر تک پہنچا آئیں۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب کم مرہ یسلم الرجل فی الاستیدان، الحدیث:

۵۱۸۵، ج ۴، ص ۴۴۵)

کبھی کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود کسی چیز کی خواہش ظاہر فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کو تیار کر کے پیش کرتے، ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کاش میرے پاس گیہوں کی سفید روٹی گھی اور دودھ میں چپڑی ہوئی ہوتی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور تیار کر کے لائے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الاطعمة ، باب فی الجمع بین لونین من الطعام، الحدیث:

۳۸۱۸، ج ۳، ص ۵۰۳)

بعض صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن خود کوئی نئی چیز پکا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی تھیں۔ ایک بار حضرت امام بن رضی اللہ عنہ نے آٹا چھانا، اور اس کی چپاتیاں تیار کر کے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ بولیں ہمارے ملک میں اس کا رواج ہے۔ میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی اس قسم کی چپاتیاں تیار کروں۔ لیکن آپ نے کمال زہد و روع سے فرمایا کہ آٹے میں چوکر ملا لو پھر گوند ہو۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الاطعمة ، باب الحوّاری، الحدیث: ۳۳۳۶، ج ۴، ص ۴۲)

نعتِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

قرآن مجید کے مواعظ اور رسول اللہ عزوجل، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات طیبہ نے اگرچہ عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شاعری کے دفتر پر پانی پھیر دیا تھا۔ تاہم ببلان بغ قدس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کبھی کبھی زمزمه خواں ہو جاتے تھے، اور چونکہ یہ اشعار سچے دل سے نکلتے تھے، اور سچی تعریف پر مشتمل ہوتے تھے، اس لئے دلوں پر اثر ڈالتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن زبیر، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہم کا یہ خاص مشغلہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند مذکور اشعار بخاری میں مذکور ہیں۔

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُوُ كِتَابًا

إِذَا انشقَ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ

”یعنی ہم میں خدا عزوجل کا پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جب صحیح نمودار ہوتی ہے تو خدا عزوجل کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔“

ارانا الهدی بعد العمی فقلو بنا به موقنات ان ماقال واقع ”گمراہی کے بعد اس نے ہم کو راست دکھائی، اسلئے ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ جو کچھ اس نے فرمایا وہ ضرور ہو کر رہے گا۔“

بَيْتٌ يَجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فَرَاشَهٖ

إِذَا سَتَّقَلَتْ بِالْمَشْرِكِينَ الْمَضَاجِعَ

”وہ راتوں کو شب بیداری کرتا ہے، حالانکہ اس وقت مشرکین گہری نیند سوتے ہیں۔“

(صحیح البخاری، کتاب التهجد، باب فضل من تعار من اللیل فصلی، الحدیث:

(۳۹۱، ج ۱، ص ۱۱۵)

حضرت کعب بن زییر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان پانچ مشہور قصیدہ ”بانات سعاد“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سنکر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا: کہ اسکو سنو! غزوہ تبوک سے واپسی پر حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نعمت سنانے کی اجازت طلب کی اور انہوں نے پیش کی۔ اس طرح بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نعمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، جن میں سے بہت سی نعمتیں ”ال مدحیخ النبوی“ میں مندرج ہیں۔

رضائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے سخت گھراتے تھے اور اس سے پناہ مانگتے تھے۔

ایک بار کسی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے آبا اجداد میں کسی کو برآ بھلا کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو فرمایا کہ ”عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں، ہمارے مردوں کو برآ بھلانہ کہو جس سے ہمارے زندوں کے دل دھیں۔“ یہ سنکر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا ہم آپ کی ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں، ہمارے لئے استغفار کیجئے۔ (سنن

النسائی، کتاب القسامۃ، باب القو'dمن اللطمة، ج ۴،الجزء الثامن، ص ۳۳)

ایک بار کسی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے روزے کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ناگوار گزرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالت دیکھی تو کہا: رضینا باللہ ربنا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ، نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ۔

ترجمہ: ہم نے خدا عزوجل کو اپنا پورا دگار، اسلام کو اپنادین، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانا ہے، اور خدا عزوجل اور خدا کے رسول عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غصب سے پناہ مانگتے ہیں۔ ”اس فقرے کو بار بار دھراتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضی ختم ہو گئی۔“

(سنن ابی داؤد، کتاب الصوم، باب فی صوم الدھر، الحدیث: ۲۴۲۵، ج ۲، ص ۴۷۳)

اس لئے اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی ناگوار واقعہ سے کبیدہ خاطر ہو جاتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر مرکن تدبیر سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے ایلاع کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر مصیبت کا پھاڑٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا چاہا، اور درود لوت پر تشریف لے گئے۔ دربان نے روک لیا۔ سمجھے کہ شاید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خاطر آئے ہیں۔ اسلئے دربان سے کہا کہ اگر سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خیال ہے تو کہد و کہ خدا عزوجل کی قسم! آپ حکم دیں تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گردان اڑا دوں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے آچکے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسا نے کیا ہے اگر بنت خارجہ (حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ) مجھ سے نان و نفقہ طلب کرتیں تو میں اٹھ کے ان کی گردان توڑ دیتا، آپ ہنس پڑے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: یہ لوگ مجھ سے نفقہ ہی تو مانگ رہی ہیں۔ دونوں بزرگ اٹھے اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کی گردان توڑنی چاہی اور کہا رسول اللہ

عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چیز مانگتی ہو جو (اس وقت) آپ کے پاس (موجود) نہیں ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الطلاق، باب بیان أن تخیر امرأته لا يكون طلاقا الابالنیة، الحدیث ۱۴۷۸، ص ۷۸۳)

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قطع کلام کر لیا اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی یہی حکم دیا، تو ان کو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مندی کی فکر تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد تھوڑی دیریک مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، اس حالت میں وہ آتے اور سلام کرتے اور دل میں کہتے کہ لبھائے مبارک کو سلام کے جواب میں حرکت ہوئی یا نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے متصل نماز پڑھتے اور گنگھیوں سے آپ کی طرف دیکھتے جاتے۔

(صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب حدیث کعب بن مالک الخ، الحدیث: ۱۴۱۸، ج ۳، ص ۴۴)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو حجۃ الوداع کے لئے تشریف لے گئے تو تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ساتھ تھیں، سوء اتفاق سے راستے میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ تھک کر پیٹھ گیا، وہ رونے لگیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو خود تشریف لائے اور دست مبارک سے ان کے آنسو پوچھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس قدر ان کو رونے سے منع فرماتے تھے اس قدر وہ اور زیادہ روئی تھیں۔ جب کسی طرح چپ نہ ہوئیں، تو انکو سر زنش فرمائی، اور تمام لوگوں کو منزل کرنے کا حکم دیا، اور خود

بھی اپنا خیمہ نصب کروایا۔ حضرت صفیہ کو خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نار ارض ہو گئے، اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا مندی کی تدبیریں اختیار کیں۔

اس غرض سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی باری کا دن کسی چیز کے معاوضے میں نہیں دے سکتی لیکن اگر آپ رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دیں تو میں اپنی باری آپ کو دیتی ہوں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آمادگی ظاہر کی، اور ایک دوپٹا اوڑھا جو زعفرانی رنگ میں رنگا ہوا تھا، پھر اس پر پانی چھپڑ کا کھوشبو اور پھیلی، اس کے بعد آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں، اور خیمہ کا پردہ اٹھایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ! رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ تمہارا دن نہیں ہے بولیں: ذلک فَضْلُ اللَّهِ يُوتَقِيْهُ مَنْ يَشَاءُ (ترجمہ کنز الایمان: یہ اللہ فضل ہے جسے چاہے دے۔ (ب ۶، المائدۃ: ۵۴))

(المسند لامام احمد بن حنبل، حدیث صفتیہ ام المؤمنین رضی الله عنہا، الحدیث: ۲۶۹۳، ج ۱۰، ص ۲۵۳)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی نار اسکی کاظہار علانية طور پر نہیں فرماتے تھے، لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ کے چشم وابرو سے اس کا احساس ہو جاتا تھا تو فوراً آپ کو راضی کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے، راہ میں ایک بلند قبہ نظر سے گزر اتو فرمایا یہ کس کا ہے، لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا، آپ کو یہ شان و شوکت ناگوار ہوئی، مگر اس کاظہار نہیں فرمایا، پچھلے دیر کے بعد انصاری بزرگ آئے، اور سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور پھیر لیا، بار بار یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی

نارِ نصّیٰ کا ذکر کیا، سبب معلوم ہوا تو انہوں نے قبہ گرا کرز میں کے برابر کر دیا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب ماجاء فی البناء، الحدیث: ۵۲۳۷، ج ۴، ص ۴۶۰)

نارِ نصّیٰ کے بعد اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تو گویا صاحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دولت جاوید مل جاتی، ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں تھے، حضرت ابو رہم رضی اللہ عنہ کی اونٹی آپ کے ناقہ کے پہلو بہ پہلو جاری تھی، حضرت ابو رہم رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں سخت چھڑے کے جوتے تھے، اونٹیوں میں مزاحمت ہوئی تو ان کے جوتے کی نوک سے سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساق مبارک میں خراش آگئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاؤں میں کوڑا مار کر فرمایا: تم نے مجھ کو دکھ دیا، پاؤں ہٹاؤ، وہ سخت گھبرائے کہ کہیں میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔

مقامِ جعرانہ میں پہنچے تو گوہ ان کی اونٹ چرانے کی باری نہ تھی، تاہم اس خوف سے کہ کہیں رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد میرے بلاںے کے لئے نہ آجائے، صحرا میں اونٹ چرانے کے لئے نکل گئے، شام کو پلے تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلب فرمایا تھا، مضطربانہ حاضر خدمت ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم نے اذیت پہنچائی، اور میں نے بھی تمہیں کوڑا مارا، جس سے تمہیں اذیت پہنچی، اسکے عوض میں یہ کبیریاں لو، ان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ رضامندی میرے لئے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب تھی۔

(الطبقات الکبریٰ، تذکرہ ابو رہم الغفاری، ج ۴، ص ۱۸۴)

غم بھر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو محبت تھی، اس کا اثر آپ کی زندگی میں جن طریقوں سے ظاہر ہوتا تھا، اس کا حال اور پرگزرنچکا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، اس محبت کا اظہار صرف گریہ و بکاء، آہ و فریاد اور نالہ و شیون کے ذریعہ سے ہو سکتا تھا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں یہ درانگیز صدائیں اس زور سے بلند کیں کہ مدینہ بلکہ کل عرب کے درود یوار مل گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر موت کے آثار بتدریج طاری ہوئے۔ جمعرات کے دن عالالت میں اشہداد پیدا ہوا، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو جب یہ دن یاد آتا تھا، تو کہتے تھے، جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن، وہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عالالت میں شدت آئی، نزع کا وقت قریب آیا تو غشی طاری ہوئی۔

(صحیح البخاری، کتاب المغاری، باب مرض النبی ووفاته، الحدیث: ۴۴۳۱، ج ۳، ص ۱۵۲)

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ حالت دیکھی تو بے اختیار پکارا ہیں ”واکر باہ“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ الفاظ کہکر آپ پر روئیں،

یا ابتابا! اجاب ربنا دعا، یا ابتابا! من جنة الفردوس ماواه یا ابتابا! الی جبرئیل عليه السلام ننعاہ۔

”لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فین کر کے آئے تو انہوں نے حضرت انس بنی اللہ عنہ سے نہایت درانگیز لمحے میں پوچھا، کیوں انس، کیسے رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ

علیہ وسلم کو مٹی دینا تمہیں گوارا ہوا؟ (المرجع السابق، الحدیث: ۴۶۲، ص ۱۶۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجھے کسی کا مرض الموت نہیں کھلتا۔

(المرجع السابق، الحدیث: ۴۴۶، ص ۱۵۶)

یہ اہل بیت کی حالت تھی۔ اہل بیت کے علاوہ اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وآل کی تصویر بنے مسجد نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام میں گریہ کنائ تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو یقین دلارہ ہے تھے کہ ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ حالت آکر دیکھی تو کسی سے بات چیت نہیں کی، سیدھے آپ کے جسد اطہر مبارک تک چلے گئے، وجہ انور سے کپڑا ہٹا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور روئے۔ وہاں سے نکل کر لوگوں کو سمجھایا تو سب کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موت کا یقین آیا۔

(المرجع السابق، الحدیث: ۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵، ج ۳، ص ۱۵۸)

ایک شخص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قلق و اضطراب کا یہ عالم دیکھ کر مدینہ سے عمان آیا تو لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کی خبر دی اور کہا کہ میں مدینہ کے لوگوں کو ایسے حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ انکے سینے دیکھی کی طرح ابال کھا رہے ہیں۔ حضرت عبد اللہ ابن ابی لیلی النصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت میں بچہ تھا، لوگ اپنے سروں اور کپڑوں پر خاک ڈال رہے تھے۔ اور میں ان کے گریہ و بکا کو دیکھ کر روتا تھا۔

(اسد الغابة، تذكرة عبد الله بن ابی لیلی، ج ۳، ص ۳۸۳)

مذینہ کے باہر جب یہ غمناک خبر پہنچی تو قبیلہ بahlہ کے لوگوں نے اس غم میں اپنے خیمے گردائیے اور متصل سات رات تک ان کو کھڑا نہیں کیا۔

(الاصابة، تذكرة جهم بن كلدة الباهلي، ج ۱، ص ۶۴)

تَفْوِيضُ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی ذاتی حیثیت بالکل فنا کر دی تھی اور اپنی ذات اور اپنی آل اولاد کو رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھیں، ان سے ایک طرف تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو نہایت دولتمد صحابی تھے نکاح کرنا چاہتے تھے، دوسری طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے متعلق ان سے گفتگو کی تھی، جنکی فضیلت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے چاہتے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھی دوست رکھے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی قسمت کا مالک بنادیا اور کہا میرا معاملہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے جس سے چاہے نکاح کرو دیجیے۔

(سنن النسائي، كتاب النكاح، باب الخطبة في النكاح، ج ۶، ص ۷۰ - ۷۱)

حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ الانصاری رضی اللہ عنہا اپنی تین لڑکیوں کے نکاح کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وصیت کر گئے تھے، جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فریعہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبیط بن جابر سے کر دیا۔

(اسد الغابة، تذكرة فریعہ بنت ابی امامہ، ج ۷، ص ۲۵۳)

انصار کا یہ معمول تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی جانے بغیر اپنی بیواؤں

کی شادی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انصاری سے فرمایا: تم اپنی لڑکی کا نکاح کر دو، وہ تو منظر ہی تھے، باغ باغ ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے لئے نہیں بلکہ جُلیسیب کے لئے پیغام دیتا ہوں، جُلیسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ظریف الطبع صحابی تھے جو عورتوں کے ساتھ ظرافت اور مذاق کی باتیں کیا کرتے تھے، اس نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو عموماً ناپسند کرتے تھے، انہوں نے جُلیسیب کا نام سناتا تو انکا رکر دیا۔ لیکن لڑکی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات نا منظور نہیں کی جاسکتی مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ آلہ وسلم کے حوالے کر دو، آپ مجھے ضائع نہ کریں گے۔

(المسند لامام احمد بن حنبل، مسنند البصرین، حدیث ابی بربہ الاسلامی، الحدیث: ۱۹۸۰۵، ج ۷، ص ۱۸۴)

ہبیت رسول

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ آلہ وسلم کے وقار و عظمت کی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے سامنے اس قدر معروب ہو جاتے تھے کہ جسم میں رعشہ پڑ جاتا تھا۔

ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ لیکن دو شخص جو مسجد کے ایک گوشہ میں تھے، شریک نماز نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ آلہ وسلم نے ان کو باز پر پس کے لئے طلب فرمایا، تو وہ اس قدر معروب ہوئے کہ جسم میں لرزہ پڑ گیا۔

(سنن ابی داود، کتاب الصلوہ، باب فیمن صلی فی منزله.....الخ، الحدیث: ۵۷۵، ج ۱، ص ۲۳۷)

ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بات چیت کی لیکن ان پر اسقدر رعب طاری ہوا کہ جسم میں رعشہ پڑ گیا آپ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: گھبرا نہیں میں تو اس عورت کا لڑکا ہوں جو گوشت کے سو کھے
لکھتے کھایا کرتی تھی۔

ایک بار ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں اکٹوں بیٹھے
ہوئے دیکھا۔ ان پر آپ کے اس خشوع و خضوع کی حالت کا یہ اثر پڑا کہ کانپ اٹھیں۔

(سنن الترمذی، الشماں، باب ماجاء فی جلسة رسول الله، الحدیث: ۱۲۶، ج ۵، ص ۵۲۵)

اس رب و دا ب کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
سامنے لب کشائی کی جرأت نہ کر پاتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر
یا ظهر کی نماز میں صرف دور کعین ادا فرمائیں، بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد سے یہ
کہتے ہوئے نکل آئے کہ رکعت نماز میں کمی کر دی گئی۔ جماعت میں حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم بھی شریک تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
ہبیت سے کچھ پوچھنہیں سکتے تھے بالآخر حضرت ذوالیہ دین رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ بھول گئے یا نماز میں کمی ہوئی، تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہم نے ان کی تائید کی لیکن زبان نہ ہل سکی، بلکہ اشاروں میں حضرت ذوالیہ دین رضی
اللہ عنہ کی تصدیق کی۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الصلوة، باب السهوفی السجدةین، الحدیث: ۱۰۰۸، ج ۱، ص ۳۷۷)

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بڑے پایہ کے صحابی تھے۔ لیکن ان کا بیان ہے کہ
میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ نہیں بیان کر سکتا۔ کیوں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم کو کمی آنکھ بھر کر دیکھنے کی جرأت نہیں کی۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب کون الاسلام یہدم ماقبلہ الخ، الحدیث: ۱۲۱، ص ۷۴)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بچوں تک کے رگ و ریشہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رعب و داب سرایت کر گیا تھا۔ ایک بار حضرت ایاد رضی اللہ عنہ بچپن میں باپ کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو ان کے باپ نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ کون ہیں؟ بولے نہیں ”کہا کہ رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔“ یہ سننے کے ساتھ ہی ان کے بدن کے رو ٹکٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ آپ کی شکل و صورت آدمیوں سے مختلف ہو گی، لیکن آپ کو نظر آیا کہ آپ بھی آدمی ہی ہیں، اور آپ کے سر پر زفین ہیں۔

(المسنند لامام احمد بن حنبل، مستندابی رمثہ، الحدیث، ۱۳۱، ج ۲، ص ۶۹۸)

اطاعت رسول

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس طوع و رضا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے اس کے متعلق احادیث میں نہایت کثرت سے واقعات مذکور ہیں۔ ذیل کے چند واقعات سے اس کا اندازہ ہو سکے گا۔

ایک بار حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے کپڑے رنگوار ہی تھیں، آپ گھر میں آئے، تو اُنہے پاؤں واپس ہو گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُنکو کچھ منہ سے کچھ نہیں فرمایا تھا، تاہم حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہِ عتاب کو جان گئیں، اور تمام کپڑوں کے رنگ کو دھوڈالا۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نگین چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ آپ نے یہ ناپسند فرمایا۔ فوراً گھر میں آئے اور

اس کو چو لھے میں ڈال دیا۔

(سنن ابی داود، کتاب اللباس، باب فی الحمرة، الحدیث: ۷۱، ج ۴، ص ۷۴)

حضرت خریم اسدی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو نیچا تہبند باندھتے تھے اور لمبے بال رکھتے تھے، ایک روز سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اچھا آدمی تھا، اگر لمبے بال نہ رکھتا، اور نیچا تہبند نہ باندھتا، ان کو معلوم ہوا تو فوراً قینچی منگائی، اس سے بال کترے اور تہبند اوپنچا کر لیا۔

(سنن ابی داود، کتاب اللباس، باب ماجاء فی اسبال الازار، الحدیث: ۸۹، ج ۴، ص ۸۰)

بیوی سب کو عزیز ہوتی ہے لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تخلفِ غزوہ تبوک کی بناء پر تمام مسلمانوں کو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے قطع تعلق کرنے کا حکم دیا، اور آخر میں ان کو زوجہ سے علیحدگی اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی تو بولے طلاق دیدوں یا اور پچھ؟ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد نے کہا صرف علیحدگی مقصد ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً زوجہ کو میکے میں بھیج دیا۔

(صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب حدیث کعب بن مالک الخ، الحدیث:

(۱۴۸، ج ۲، ص ۴۴)

شادی کا معاملہ نہایت نازک ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان معاملات میں غور و فکر کرنے سے بے نیاز بنا دیا تھا، حضرت ربیعہ اسلامی رضی اللہ عنہ ایک نہایت مفلس صحابی تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکاح کرنے کا مشورہ دیا اور فرمایا: جاؤ انصار کے فلاں قبیلہ میں نکاح کرو، وہ آئے اور کہا رسول اللہ عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارے یہاں فلاں اڑکی

سے نکاح کرنے کے لئے بھیجا ہے، سب نے ان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصدنا کام نہیں جاسکتا۔ چنانچہ فوراً انہوں نے انکی شادی کروائی اور تھائلف دیئے۔

(المسند لامام احمد بن حنبل، حدیث ریبعة بن کعب الاسلامی رضی اللہ عنہ، حدیث: ۱۶۵۷۷، ج ۵، ص ۵۶۹)

پابندی احکام رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم کے جواہر احکام وقتی ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فوراً ان کی تعیل کرتے تھے۔ اور جو داعی ہوتے ہمیشہ اس کے پابند رہتے تھے اور اس کے خلاف کبھی ان سے کوئی حرکت صادر نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی شریک جماعت ہوتی تھیں۔ اس حالت میں اقتضائے کمال عفت و عصمت یہ تھا کہ ان کے لئے مسجد کا ایک دروازہ مخصوص کر دیا جائے۔ اس بنابر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا: ”لوتر کنا هدا الباب للنساء“ کاش ہم یہ دروازہ صرف عورتوں کے لئے چھوڑ دیتے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس شدت کے ساتھ اس کی پابندی کی کہ تادم مرگ اس دروازہ سے مسجد میں داخل نہیں ہوئے۔

(سنن ابن داود، کتاب الصلوة، باب الشدید في ذلك، الحدیث: ۵۷۱، ج ۱، ص ۲۳۵)

ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے غسل جنابت میں ایک بال کو بھی خشک چھوڑ دیا اس پر دوزخ میں عذاب ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس پر جس شدت سے عمل کیا اس کو خود انہوں نے بیان کیا ہے۔ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ

رَأْسِي لِيْعَنِي اس دن سے میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی اور برابر بال ترشاتے رہے۔
حدیث میں ہے کہ یہ فقرہ انہوں نے تین بار فرمایا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الطھارۃ، باب فی الغسل من الجنابة، الحدیث: ۲۴۹، ج ۱، ص ۱۱۷)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کے علاوہ دیگر اعزہ کے سوگ کے لئے تین دن مقرر فرمائے تھے، صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے اس کی اس شدت سے پابندی کی جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو غالباً چوتھے دن انہوں نے خوشبو لگائی، اور کہا کہ مجھ کو خوشبو کی ضرورت نہ تھی لیکن میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منبر پر سنا ہے کہ کسی مسلمان عورت کو شوہر کے سوا تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ جائز نہیں، اس لئے یہ اسی حکم کی تعمیل تھی۔“

جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد نے انتقال کیا تو انہوں نے تین روز کے بعد اپنے رخساروں پر خوشبو ملی اور کہا مجھے اسکی ضرورت نہ تھی، صرف اس حکم کی تعمیل مقصود تھی۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الطلاق، باب احداد المتفق عنہما ووجهہا، الحدیث: ۲۲۹۹، ج ۲، ص ۴۲۲)

پہلے یہ دستور تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سفر جہاد میں کسی منزل پر قیام فرماتے تھے تو ادھر ادھر پھیل جاتے تھے، ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تفرق و تشتت شیطان کا کام ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی اس شدت سے پابندی کی کہ جب بھی منزل پر اترتے تھے تو اس قدر سمت جاتے تھے کہ اگر ایک چادر تان لی جاتی تو سب کے سب اس کے نیچے آ جاتے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب ما یؤمر من انضمام العسکر، الحدیث: ۲۶۲۸، ج ۳، ص ۵۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے متعلق جواہام جاری فرمائے تھے ان میں ایک یہ تھا۔

”لایع حاضر لباد“ شہری آدمی بدویوں کا مال نہ بکوائے (یعنی اس کا دلال نہ بنے) (سنن

ابی داود، کتاب الاجارة، باب فی النہی ان لایع حاضر لباد، الحدیث: ۳۴۴۲، ج ۳، ص ۳۷۱)

ایک بار ایک بدوی کچھ مال لیکر آیا تو حضرت طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے یہاں

اترا لیکن انہوں نے کہا کہ میں خود تو تمہارا سودا نہیں بکوائیں، البتہ بازار میں جاؤ باع کی

تلاش کرو میں صرف مشورہ دیدوں گا۔ (سنن ابی داود، کتاب الاجارة، باب فی النہی ان

لایع حاضر لباد، الحدیث: ۳۴۴۱، ج ۳، ص ۳۷۱)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے مدائیں کے ایک رئیس نے چاندی کے برتن

میں پانی پیش کیا، انہوں نے اس کو اٹھا کر بچھینک دیا، اور فرمایا کہ میں نے اس کو منع کیا

تھا، یہ بازنہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔

(سنن ابی داود، کتاب الاشربة، باب فی الشرب فی آنية الذہب والفضة، الحدیث:

۳۷۲۳، ج ۳، ص ۴۷۳)

رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے یہمن کی گورنری پر حضرت ابو موسیٰ

اشعری رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، ان کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضرت

معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے

ایک مجرم کو دیکھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سواری سے اترنے کے لئے کہا

لیکن انہوں نے مجرم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کون ہے؟ بولے یہودی تھا اسلام

لایا پھر مرتد ہو گیا ہے، فرمایا جب تک خدا اور رسول عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم

کے مطابق قتل نہ کر دیا جائیگا، میں نہ بیٹھوں گا۔ انہوں نے بیٹھنے پر اصرار کیا، لیکن ان کا

یہی جواب تھا، چنانچہ جب وہ قتل ہو چکا تو سواری سے اترے۔

(سنن ابی داود، کتاب الحدود، باب الحکم فی من ارتد، الحدیث: ۴۳۵۴، ج ۴، ص ۱۶۹)

لیکن اس کے بعد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسکو تقریباً میں دن تک سمجھایا، لیکن جب وہ راہ راست پر نہ آیا تو قتل کر دیا۔

(المرجع السابق، الحدیث: ۳۵۶، ج ۴، ص ۱۷۰)

ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں آئے ایک شخص نے اٹھ کر ان کے لئے اپنی جگہ خالی کر دی تو انہوں نے اس کی جگہ بیٹھنے سے انکار کیا اور کہا کہ رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔

(سنن ابی داود، کتاب الصلوٰۃ، باب فی الرجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ، الحدیث:

(۳۳۹، ج ۴، ص ۴۸۲۷)

ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک سائل آیا، انہوں نے اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا دیدیا، پھر اس کے بعد ایک خوش لباس شخص آیا تو انہوں نے اس کو بٹھا کر کھانا کھلایا۔ لوگوں نے اس تفریق پر اعتراض کیا تو بولیں رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: ”انزلوا النّاسَ مَنَازِلَهُمْ“ ہر شخص سے اس کے درجہ کے مطابق برتاو کرو۔

(سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی تنزيل النّاسَ مَنَازِلَهُمْ، الحدیث: ۴۸۴۲، ج ۴، ص ۳۴۳)

ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے دیکھا کہ راستے میں مرد عورتیں مل جل کر چل رہے ہیں۔ عورتوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: چیچھے رہوت و سط راہ سے نہیں گزر سکتیں۔ اس کے بعد یہ حال ہو گیا کہ عورتیں اس قدر گلی کے کنارے سے چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے دیواروں سے ال جھاتے تھے۔

(المرجع السابق، باب فی مشی النّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّرِيقِ، الحدیث: ۵۲۷۲، ج ۴، ص ۴۷۰)

حضرت محمد بن اسلم رضي الله عنه نهایت کیمِ اسن صحابی تھے۔ لیکن جب بازار سے پٹ کر گھر آتے اور چادر اتارنے کے بعد یاد آتا کہ انھوں نے مسجد نبوی علی صاحبِ الصلوٰۃ والسلام میں نماز نہیں پڑھی تو کہتے کہ خدا کی قسم! میں نے مسجد رسول میں نماز نہیں پڑھی، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ جو شخص مدینہ میں آئے تو جب تک اس مسجد میں دور کعت نماز نہ پڑھ لے گھر واپس نہ جائے، یہ کہہ کر چادر اٹھاتے اور مسجد نبوی علی صاحبِ الصلوٰۃ والسلام میں دور کعت نماز پڑھ کے گھر واپس آتے۔

(اسد الغابة، تذكرة محمد بن اسلم الانصاری، ج ۵، ص ۸۰)

غزوہ احزاب میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا کہ کفار کی خبر لائیں، لیکن ان سے چھیڑ چھاڑنے کریں، وہ آئے تو دیکھا کہ ابوسفیان آگ تاپ رہے ہیں، کمان میں تیر جوڑ لیا اور نشانہ لگانا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یاد آگیا اور رک گئے۔

(صحیح مسلم، کتاب الجناد و السیر، باب غزوۃ الأحزاب، الحدیث: ۱۷۸۸، ص ۹۸۸) جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ابو رافع بن ابی الحقیق کو قتل کرنے کے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس کے بچوں اور عورتوں کو نہ قتل کریں۔ ان لوگوں نے اس شدت کے ساتھ اس حکم کی پابندی کی کہ ابن ابی الحقیق کی عورت نے باوجود یہ اس قدر شور کیا کہ قریب تھا ان کا راز فاش ہو جاتا، لیکن ان لوگوں نے صرف آپ کے حکم کی بناء پر ہاتھ اٹھانا پسند نہ کیا۔

(المؤطا للإمام مالك، کتاب الجناد، باب النهي عن قتل النساء، والولدان في العزو، الحدیث: ۲، ج ۲، ص ۸)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کرام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ مختصرہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انتقال کیا تو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سجدے میں گر پڑے، لوگوں نے کہا آپ اس وقت سجدہ کرتے ہیں؟ بولے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا ہے جب قیامت کی کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کر لیا کرو، پھر ازدواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی موت سے بڑھ کر قیامت کی کون سی نشانی ہوگی۔

(سنن ابی داؤد، کتاب صلاة الاستسقاء، باب السجود عند الآيات، الحدیث: ۱۱۹۷، ج ۱، ص ۴۴۰)

مقام سرف میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ اٹھایا گیا، تو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ساتھ تھے بولے کہ ”یہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں ان کا جنازہ اٹھاؤ تو مطلق حرکت و بیش نہ دو۔“

(سنن النسائی، کتاب النکاح، باب ذکر امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النکاح.....الخ، ج ۳، الجزء السادس، ص ۵۳)

بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عزت و محبت کی وجہ سے ازدواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اپنی جائیدادیں وقف کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ازدواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جائیدادی تھی جو ۴۰ ہزار دینار میں فروخت کی گئی اور ایک باغ بھی وقف کیا تھا جو چار لاکھ درہم میں فروخت کیا گیا۔

(سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب عبد الرحمن بن عوفالخ)

الحدیث: ۳۷۷۰ - ۳۷۷۱ - ۳۷۷۲، ج ۵، ص ۴۱۷)

خلافاء رضي الله تعالى عنهم ازواج مطهرات رضي الله تعالى عنهم کے ادب و احترام کا اس قدر لحاظ رکھتے تھے کہ حضرت عمر رضي الله عنہنے اپنے زمانہ خلافت میں ازواج مطهرات رضي الله تعالى عنهم کی تعداد کے لحاظ سے نوپا لے تیار کرائے تھے، جب ان کے پاس میوه یا اور کوئی چیز آتی تو ان پیالوں میں تمام ازواج مطهرات رضي الله تعالى عنهم کی خدمت میں بھیجتے تھے۔

(المؤطلا مالک ، کتاب الزکوة، باب جذية اهل الكتاب والمحوس،
الحادیث: ٦٣٠، ج ١، ص ٢٥٧)

۲۳ھ میں جب حضرت عمر رضي الله تعالى عنہنے حج کیا تو ازواج مطهرات رضي الله تعالى عنهم کو بھی نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہمراہ لے گئے، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنہما کو سواریوں کے ساتھ کر دیا تھا۔ یہ لوگ آگے آگے چلتے تھے اور کسی کو سواریوں کے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ ازواج مطهرات رضي الله تعالى عنهم منزل پر ارتقی تھیں، تو خود حضرت عمر رضي الله عنہ کی نگرانی میں قیام کرتی تھیں۔ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنہما کسی کو قیام گاہ کے متصل آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔

(الطبقات الكبرى، تذكرة تولية عبد الرحمن الشوري والحج، ج ٣، ص ٩٩)

حضرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر عمل

حالت تحریر: مسلمانوں کو جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی اطلاع ملی تو وہ ششدروسا کرت رہ گئے، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ حضرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوت نہیں ہوئے، صرف حالت بے ہوشی میں ہیں، چنانچہ انہوں نے مسجد میں خطاب کرتے ہوئے کہا:

بعض منافقین یہ خبر اڑا رہے ہیں کہ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی طرح اپنے رب عزوجل کے پاس گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم میں چالیس دن موجودہ رہے تھے اور ان کی غیر حاضری میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ فوت ہو گئے، لیکن جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آگئے اسی طرح محمد رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس آئیں گے اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر مشہور کر رہے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں قلم کریں گے۔

انشاف حقیقت: اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا خاموش ہو جاؤ، لیکن وہ اپنی تقریر میں منہمک رہے۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا: جو کچھ میں کہتا ہوں اسے غور سے سنو! سب لوگ متوجہ ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا:

”اے لوگو! تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پستش کرتا تھا وہ سن

لے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو فوت ہو گئے لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے موت نہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۝ قَدْ خَلَتْ مِنْ ترجمہ کنز الایمان: او محمد تو ایک رسول ہیں ان قَبْلِهِ الرُّسُلُ طَافَانِ مَاتَ أَوْ قُتِلَ سے پہلے اور رسول ہو چکے تو کیا اگر وہ انتقال اُنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ طَ وَمَنْ يَنْقُلِبْ فرمائیں یا شہید ہوں تو تم اُن لئے پاؤں پھر عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا طَ وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّكِّرِيْنَ ۝ ۵
نقسان نہ کرے گا اور عنقریب اللہ شکر والوں کو
(ب ۴، آل عمران: ۴۴) صلدے گا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو لوگ ایسے ہو گئے کہ گویا انہوں نے کبھی پہلے یہ آیت سنی ہی نہ تھی۔ اس وقت لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کو سن کر اپنی یاد تازہ کر لی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے میں نے یہ آیت سنی مجھ کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا میرے پاؤں کٹ گئے میں کھڑا نہ رہ سکا اسی وقت زمین پر گر پڑا اور میں نے جانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ (مدارج النبوت، باب دوم، درذ کرو قائم... الخ، ج ۲، ص ۴۳۳، ۴۳۴)

غم و الم کے بادلوں کا چھا جانا

﴿۱﴾ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزهراء رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس غم و الم کے موقع پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے: ”میرے پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول فرمایا اور فردوس بریس میں نزول فرمایا، آج جبراً تیل علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی خبر کون پہنچائے؟ الٰہی عزوجل! روح فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو روح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچادے۔ الٰہی عزوجل! مجھے دیدار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مسرور کر دے۔ الٰہی عزوجل! مجھے اس مصیبت کو جھینکنے کے ثواب سے بے نصیب نہ رکھنا اور روزِ محشر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا۔“

﴿۲﴾ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سانحہ عظیم پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ہائے افسوس! وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے فقر کو غنا پر، اور مسکینی کو دولت مندی پر ترجیح دی، افسوس! وہ معلم دین جو گناہ گارامت کی فکر میں کبھی پوری رات آرام سے نہ سویا، ہم سے رخصت ہو گیا۔ جس نے ہمیشہ صبر و ثبات سے اپنے نفس کے ساتھ مقابله کیا، جس نے برا یوں پر کبھی توجہ نہ کی، جس نے نیکی اور احسان کے دروازے کبھی ضرورت مندوں پر بند نہ کئے، جس روشن ضمیر کے دامن پر دشمنوں کی ایذ ارسانی کا گرد و غبار کبھی نہ بیٹھا۔

﴿۳﴾ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل دیتے ہوئے جو تاریخی الفاظ کہے وہ ساری امت کے جذبات رنج و غم کے ترجمان ہیں۔

”میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نثار، آپ کی موت سے وہ چیز جاتی رہی جو کسی دوسرے کی وفات سے نہ گئی تھی، یعنی غیب کی خبروں، اور وحی آسمانی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موت صدمہ عظیم ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، اور آہ و زاری سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آنسو بھا دیتے پھر کبھی اس درد کا علاج اور زخم کا اندر مال نہ ہوتا۔“

(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام، باب جهار رسول صلی اللہ علیہ وسلم و دفنه، ج 4، ص ۵۵۵)

{ ۲ } حضرت انس رضي الله تعالى عنہ سے روایت ہے کہ جس روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے، اس کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی اور جس روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس کی ہر چیز اداس ہو گئی ہے اور بعد تدقین ابھی مٹی سے ہاتھ بھی نہ جھاڑے تھے کہ ہم نے اپنے قلوب میں تغیر پایا۔ (کیونکہ اب انھیں مرشد کامل کی صحبت کے انوار کا ملمہ دکھائی نہ پڑتے تھے)

(شرح العالمة الزرقانی، الفصل الاول فی اتمامہ تعالیٰ الخ، ج ۱۲، ص ۱۷۶)

{ ۵ } دربار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مرثیہ لکھا، اس کے چند پروردہ اشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے، جس سے ان کے رنخ غم کے گھرے اور سچے جذبات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

”تیری نیند کے اچاٹ ہونے کا سبب اس عظیم انسان کی جدائی ہے جو ہمارا ہادی ورہنماء ہے، صد افسوس! کوہ جوز میں پر بہترین ہستی تھی، آج زیر میں محفون ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کاش ایسا ہوتا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بقیع الغرقد میں دفن ہو جاتا۔ میرے ماں باپ اس نبی کامل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں جو پیر کے روز ہمیں داغ مفارقت دے گیا۔ مدینہ کی سر زمین مجھے ویران و سنسان دکھائی دیتی ہے۔ کاش! میں آج کے دن کے لیے پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر مدینہ میں رہ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال میرے لئے جام زہر سے تنخ تر ہے۔ میرے آقا! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا پاک وجود ایسا نور تھا جس نے تمام روئے زمین کو روشن کر کھا تھا جس نے بھی اس نور سے فیض پایا اس نے ہدایت پائی۔“

”اے ہمارے رب عزوجل! ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے۔ خدا عزوجل کی قسم! جب تک میں زندہ رہوں گا اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے روتا اور ترپتارہوں گا۔“

(السیرۃ النبویۃ، شعر حسان بن ثابت فی مرثیتہ، ج ۴، ص ۵۵۸ - ۵۶۲)

{ ۶ } حضرت امام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے رونے لگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، آپ کیوں روئی ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خدا تعالیٰ کے پاس (یہاں سے) بہتر نعمتیں موجود نہیں؟ انہوں نے بھی تصدیق کی، لیکن اپنے رونے کا یہ سبب بتلایا کہ وحی آسمانی کا سلسلہ متفقظ ہو گیا ہے۔ اس پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شریک گریہ غم ہو گئے۔

(الوفافی احوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم (مترجم) باب وصال المصطفیٰ اور کیفیت صحابہ، ص ۸۱۷)

الغرض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور امامت محمد یہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے شخص آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر سوگوار تھا اور یاس و حرمان کی تصویر بنا ہوا تھا۔

فارق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب سن کر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا تو ایک وقت دیکھا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درور ہے ہیں اور یہ کلمات عرض کر رہے ہیں:

السلام عليك يا رسول الله باي انت وامي لقد كنت تحطينا على جذع

نخلة فلما كثر الناس اتخذت منبراً لتسمعهم فحن الجذع لفراشك حتى جعلت يدك عليه فمسكت فامتلك اولى بالحنين اليك لما فارقتها بابي انت و امى يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده ان جعل طاعتك طاعته فقال عزو جل: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (پ ۵، النساء: ۸۰)

بابى انت و امى يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده ان بعثك آخر الانبياء وذكرك فى اولهم فقال عزو جل: وَإِذَا أَخْدَنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيشَافُهُمْ وَمِنْكَ وَ مِنْ نُورٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَ وَأَخْدَنَا مِنْهُمْ مِيشَافًا غَلِيلًا (پ ۲۱، الاحزاب: ۷)

بابى انت و امى يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده ان اهل النار يودون ان يكونوا قد اطاعوك و هم بين اطباقها يعذبون؛ يَقُولُونَ يَلِيتَنَا أَطْعَنَا اللَّهُ وَأَطْعَنَا الرَّسُولَ (پ ۲۲، الاحزاب: ۶)

بابى انت و امى يارسول الله لعن كان موسى بن عمران اعطاه الله حجر تفجر منه الانهار فليس ذلك باعجب من اصابعك حين نبع منها الماء صلى الله عليك يا سيدى يارسول الله -

بابى انت و امى يارسول الله لعن كان عيسى بن مريم اعطاه الله احياء الموتى فما هذا باعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك و هي مشوية فقالت لك الذراع لا تأكلنى فانى مسمومة -

بابى انت و امى يارسول الله لقد دعا نوح على قومه فقال: رَبِّ لَا تَدْرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفَّارِينَ دَيَّارًا (پ ۲۹، نوح: ۲۶)

ولو دعوت علينا بمثلاها لهلكنا كلنا فلقد وطئ ظهرك عقبة ابن ابي معيط و
انت تصلی و ادمی وجهک و کسرت رباعیتك یوم احد فاییت ان تقول الا
خیرا فقلت اللہم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون

بابی انت و امی یا رسول الله لقد بلغ من تواضعک انک جالستنا و
تزوجت منا واکلت معنا ولبست الصوف وركبت الدواب واردفت خلفک
ووضعت طعامک على الارض تواضعا منک صلی الله علیک وسلم رضی الله
عنک یا عمر یا من احییت رسول الله واحبک الله ورسوله.

ترجمہ: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ پر سلام ہو۔ آپ پر میرے ماں باپ
قریبان ہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے پر ہمیں خطبہ دیا کرتے تھے،
جب لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منبر بنوایا تا کہ سب
تک آواز پہنچا سکیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے تو تنا آپ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے سبب نالہ کنان ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا
دست مبارک رکھا تو وہ سکون پذیر ہوا۔ جب کھجور کے تنے کا یہ حال ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم کی امت کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فراق پر نالہ شوق کرنے کا زیادہ حق
پہنچتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں
باپ قربان! خدا عزوجل کے نزدیک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اس حد کو پہنچی
ہوئی ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔
ارشاد باری عزوجل ہوا:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَ جَ ترجمہ کنز الایمان: جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔
(پ ۵، النساء: ۸۰)

یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں! خدا عزوجل کے نزد یک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنانے کا مجموعت کیا اور ذکر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اول رکھا کہ ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سے کاڑھا عہد لیا۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ
وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَ
مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ صَ
وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
(پ ۲۱، الاحزاب: ۷)

یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں! خدا عزوجل کے یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فضیلت بھی ہے کہ اہل دوزخ جب طبقات جہنم میں عذاب دینے جاتے ہوں گے اس وقت یہ آرزو کریں گے کہ کاش انہوں نے اطاعت کی ہوتی!

يَقُولُونَ يَلِيَسْتَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطْعَنَا ترجمہ کنز الایمان: کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح الرَّسُولَا (پ ۲۲، الاحزاب: ۶۶) ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا

یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں! اگر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو اللہ عزوجل نے ایسا پتھر عطا کیا جس

سے نہیں پھوٹتیں، تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے زیادہ عجیب نہیں جب کہ ان سے پانی کا چشمہ روائی ہوا۔

یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں! اگر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردے جلانے کا اعجاز بخشنا تھا تو یہ زیادہ عجیب نہیں اس زہر آلو بکری سے، جس نے بھنی ہوئی ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا اس بکری کی دستی نے عرض کیا: ”مجھے کہا میں کیوں کہ میں زہر آلو ہوں۔“

یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا! بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف دعا فرمائی تو عرض کیا: رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ ترجمہ کنز الایمان: اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بنسے والا نہ چھوڑ۔ الْكُفَّارُنَ دِيَارًا ۝۵۰ (پ ۲۹، نوح: ۲۶)

اگر کہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم پر ایسی دعا نے ضرر کر دیتے تو یقیناً ہم سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے۔ بے شک عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر بوجھ ڈالا جکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں تھے۔ جنگ احمد کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پاک رخی و خونریز کیا گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کئے گئے پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیر کے سوا کچھ کہنا گوارا نہ کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا خدا یا عزوجل! میری قوم کو معاف فرمائے وہ مجھے جانتی نہیں۔

یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تواضع و انکسار اس حد کو پہنچا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہم نشانی اختیار کی، ہم میں نکاح کیا، ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمایا، بھیڑ کے بالوں (اوون) کا کپڑا پہنا، جانوروں کی سواری کی، کسی کو اپنے پیچھے بھی سوار کرنا پسند کر لیا، اور اپنا کھانا زمین پر رکھنا گوارا کیا، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم!

اللہ عز وجل تجھ سے راضی ہواے عمر! اے وہ جس نے اللہ عز وجل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، اور اے وہ! جس سے خود اللہ عز وجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محبت رکھی۔

غمہ هجر: حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگو! تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھادو یا مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پتا بتا دو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غمہ هجر میں مدینے کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ ایک سال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ! تم نے ہم سے مانا کیوں چھوڑا؟ کیا تم ہمارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟

حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب دیکھ کر، لبیک یا سیدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اے آقا! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غلام حاضر ہے، کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹی پر سوار ہو کر مدینے کو چل پڑے۔ رات دن برابر چل کر مدینہ منورہ میں داخل

ہوئے۔ حضرت بلاں رضی اللہ عنہ پہلے سید ہے مسجد نبوی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) پہنچے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈا، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا، پھر جروں میں تلاش کیا جب وہاں بھی نہ ملے تب مزار انور پر حاضر ہوئے اور روکر عرض کیا: یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حلب سے غلام کو یہ فرمایا کہ ہم سے مل جاؤ اور جب بلاں زیارت کے لئے حاضر ہوا تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پرده میں چھپ گئے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے، بہت دیر میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے۔

اس عرصہ میں حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا سارے مدینہ میں غل ہوا کہ آج رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موذن بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ سب نے مل کر حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی اللہ عزوجل کے لئے ایک دفعہ وہ اذان سنا دی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، دوستو! یہ بات میری طاقت سے باہر ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان دیتا تھا تو جس وقت اشہدان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ اب بتاؤ کہ کسے دیکھوں گا؟ مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار ہی کیا۔

بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ رائے ہوئی کہ بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا کہنا نہیں مانیں گے تم کسی کو بھیج کر حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلا لو، اگر وہ آکر بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور مان جائیں گے،

کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشق ہے۔ یہ سنکر ایک صاحب جا کر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکر بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ! آج ہمیں بھی وہی اذان سنادو جو ہمارے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر کہا۔ تم میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارہ ہو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کھو گے منظور کروں گا، تمہیں رنجیدہ نہ کروں گا کہ اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مزار مبارک میں رنج پہنچے گا اور پھر فرمایا: حسین! رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے چلو جہاں کہو گے اذان کہہ دوں گا۔

حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہنا شروع کی اللہ اکبر! اللہ اکبر! مدینہ منورہ میں یہ وقت عجب غم اور صدمہ کا وقت تھا۔ آج مہینوں کے بعد اذان بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیوی حیات مبارک کا سماں بندھ گیا۔ بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سنکر مدینہ منورہ کے بازار و گلی کو چوں سے لوگ آن کر مسجد میں جمع ہوئے ہر ایک شخص گھر سے نکل آیا۔ پرده والی عورتیں باہر آ گئیں اپنے بچوں کو ساتھ لا گئیں۔ جس وقت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد ا رسول اللہ منه سے نکلا ہزارہا چھیں ایک دم تکلیں اس وقت روئے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ عورتیں روئی رہیں بچے اپنی ماوں سے پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماؤ ذین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو آگئے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ

کب تشریف لائیں گے۔

حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشہد ان محمدما رسول اللہ منہ سے نکالا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو غم ہجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آ کر اٹھے اور روتے رہے۔ پھر ملک شام چلے گئے۔

(مدارج النبوت، باب دهم، درذ کر مؤذنین... الخ، ج ۲، ص ۵۸۳)

روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کیا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کراؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جگرہ شریفہ کھولا، انہوں نے زیارت کی اور زیارت کر کے روتی رہیں اور روتے روتے انتقال فرمائیں۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رضا حاصعننا۔

(الشفاء للقاضی عیاض، کتاب فی لزوم محبته علیہ السلام، فصل فیماروی..... الخ، ج ۲، ص ۴۴)

رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نظر میں
رسول خدا عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ باوقار تھے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا پروقار تھی۔ (حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ)
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی، حلم اور قوت، تفکر اور تدبیر کی آئینہ دار تھی۔ (حضرت ابن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

رسول خدا عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں ترتیل و ترسیل کی صفت تھی یعنی ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے۔ (حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

رسول خدا عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دہ نشین کنواری لڑکیوں سے زیادہ باحیا تھے جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز سے کراہت فرماتے تو ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے بچان لیتے۔ (حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

حضرت اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حیا کی وجہ سے کسی کے چہرے پر نظریں جما کر بات نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکروہ باتوں کا ذکر اشارے کنائے میں فرمادیتے۔ (حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خوش کلامی فرماتے، ان میں مل کر بیٹھتے، اور ان کے بچوں کو گود میں بٹھاتے اور پیار کرتے۔ (حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مصافحت فرماتے، اور جو کوئی حاضر خدمت ہوتا اس کی عزت کرتے۔ (حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاجت مند بن کر حاضر ہوتے، شکم سیر ہو کر رخصت ہوتے، اور فقیہ بن کرن لفتتے۔

(حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

زمانہ جالیت میں بھی لوگ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات پیغام کے لئے لے جاتے۔ (حضرت ربع ابن حشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(نسیم الریاض، القسم الاول، فصل واما عدلہ، ج ۲، ص ۳۷۸)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے حال میں وصال فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کبھی جو سے

پیٹ نہ بھرا تھا۔ (حضرت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه)

هم آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ حال تھا کہ ایک ایک مہینہ گھر میں آگ تک روشن نہ ہوتی تھی، صرف کھجور اور پانی پر گزار ہوتا تھا۔

(حضرت عائشہ رضي الله تعالى عنها)

(شماہل الترمذی، باب ماجاء فی عیش النبی، الحدیث: ۳۷۱، ج ۵، ص ۵۷۳)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی عبادت فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک متورم ہو جاتے۔ (حضرت مغیرہ رضي الله تعالى عنه)

(صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب قیام النبی حتی قدماء، الحدیث: ۱۱۳۰، ج ۱، ص ۳۸۴)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی نماز کیوں پڑھا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے نہ بنوں۔ (حضرت ابوسلمہ رضي الله تعالى عنه) (المرجع السابق)

ایک دفعہ میں حاضر خدمت ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آرہی تھی جیسے ہندیا پک رہی ہو۔

(حضرت عبد اللہ بن شخیر رضي الله تعالى عنه)

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے بہترین شخص کو منتخب کیا جو سب سے زیادہ عالی نسب، راست، گفتار اور شریف نفس تھا اور وہ تمام عالم کا انتخاب تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

(حضرت ثابت بن قیس رضي الله تعالى عنه)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ فخش گوئے، نہ لعنت کرنے والے تھے اور نہ گالی دینے والے تھے۔ (حضرت انس رضي الله تعالى عنه)

آنحضرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیمار کی عیادت کرتے، جنازے کے ساتھ چلتے، اگر کوئی غلام دعوت کرتا تو اسے قبول فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے بہتر، سب سے زیادہ سخنی اور سب سے زیادہ شجاع تھے۔

(حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توضیح و اعکساری دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ پیغمبر ہیں باشانہ نہیں۔ (حضرت عذر بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخنی اور فیاض تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا ظہور رمضان مبارک میں سب سے زیادہ ہوتا تھا۔

(حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے (رحلت کے وقت) نہ کوئی دینار چھوڑا نہ کوئی درہم، نہ بکری نہ اونٹ۔ (حضرت امام المؤمن بن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما)

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترکہ میں سوائے ہتھیاروں اور ایک چھر کے پچھنہ چھوڑا۔ (حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو یتیموں کے کرنے کا اور شرستے بچے کا حکم دیتا ہے۔ (حضرت امیس (برادر ابوذر رغفاری) رضی اللہ تعالیٰ عنہما)

جب گھمسان کارن پڑتا اور لڑنے والوں کی آنکھوں میں خون اتر آتا، اس وقت ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اوٹ لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے آگے دشمن کی جانب ہوا کرتے تھے۔ (حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(نسیم الرياض، القسم الاول، فصل واما الشجاعة...الخ، ج ۲، ص ۳۰۱)

جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اول نظر دیکھ لیتا، مرعوب ہو جاتا اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں بیٹھتا اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو جاتی۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مدح خواں یہ کہہ دے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کبھی پہلے دیکھا اور نہ آئندہ دیکھنے کی امید ہے تو کچھ مبالغہ نہیں۔
 (حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

عقلمندوں پر واضح ہو چکا ہے کہ جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ شاعر ہیں نہ جادوگر، ان کا کلام رب العالمین عزوجل کی وحی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر شخص پر واجب ہے۔
 (حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

وہ ہر خوبی سے آراستہ ہیں، ہر خلق کریم سے ممتاز ہیں، ہم انیت ان کا لباس، نیکی ان کا شعار ہے۔ ان کا ضمیر تقویٰ ہے، ان کا کلام حکمت ہے، صدق و وفا ان کی فطرت ہے، عفو و احسان ان کی عادت ہے، عدل ان کی سیرت ہے، سچائی ان کی شریعت ہے ہدایت ان کی رہنمای ہے، مذہب ان کا اسلام ہے اور احمد ان کا نام ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
 (صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

بارگاہ رسالت میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا خراج عقیدت

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

لما رأيَتْ نَبِيًّا مُتَجَدِّلاً ضاقتْ عَلَى بَعْرَضِهِنَ الدُورُ
فَارْتَاعَ قَلْبِيْعِنَدَ ذَاكَ لَهْلَكَهُ وَالْعَظَمُ مِنْيَ مَا حَيَيْتُ كَسِيرٌ
يَا لِيْتَنِي مِنْ قَبْلِ مَهْلَكَ صَاحِبِيْغَيْتُ فِي جَدْثُ عَلَى صَخْوَرٍ

(شرح العلامة الزرقاني، المقصد العاشر، الفصل الاول في اتمامه... الخ، ج ۱۲، ص ۱۵۱)

ترجمہ: ۱﴿ جب میں نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وفات یافتہ دیکھا تو
مکانات اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے۔

۲﴿ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے میرا دل لرزائھا اور زندگی بھر
میری ہڈی شکستہ رہے گی۔

۳﴿ کاش! میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال سے پہلے قبر میں دفن کر دیا
گیا ہوتا اور مجھ پر پتھر ہوتے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

صَدَقَ الْحَدِيثُ نَبِيٌّ عِنْدَهُ النَّبْرُ
وَقَدْ بَدَأْنَا فَكَذَّبَنَا فَقَالَ لَنَا

رَبِّيْ عَشِيَّةً قَالُوا قَدْ صَبَا عَمْرُ
وَقَدْ ظَلَمَتْ ابْنَةَ الْخُطَابَ ثُمَّ هَدَىٰ

لَمَّا دَعَتْ رَبَّهَا ذَالْعَرْشَ جَاهَدَهُ
وَالْدَّمْعُ مِنْ عَيْنِهَا عَجَلَانِ يَبْتَدِرُ

فَقَلَتْ أَشْهَدَ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُنَا
وَأَنَّ أَحْمَدَ فِينَا الْيَوْمَ مشتهر

وَافِي الْإِمَانِةِ مَافِي وَعْدَهُ خَوْرُ
نَبِيٌّ صَدَقَ اتِيَ بالْحَجَّةَ مِنْ ثَقَةٍ

(سیرت ابن اسحاق، ج ۲، ص ۱۵۳)

ترجمہ: ۱﴿ اور ہم پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز تبلیغ کی جس کی ہم نے

تندیب کی توجیہ رکھنے والے نبی نے ہم سے بھی بات کی۔

﴿۲﴾ میں نے بنت خطاب پر زیادتی کی پھر میرے رب عزوجل نے اس شام کو مجھے ہدایت دی جب لوگوں نے کہا کہ عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) آبائی دین سے نکل گیا ہے۔

﴿۳﴾ اور پھر جب اس نے دل سوزی سے اپنے رب عزوجل کو پکارا اور اسکی آنکھوں سے آنسو بڑی تیزی سے رووال تھے۔

﴿۴﴾ تو میں نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عزوجل ہمارا خالق ہے اور احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے درمیان مشہور و متعارف ہیں۔

﴿۵﴾ کہ وہ سچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو مستند دلیل و برهان لائے اور وہ امانت دار ہیں ان کے وعدے کمزور نہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ

رسول عظیم الشان یتلو کتابہ لہ کل من یبغی التلاوة وامق
محب علیہ کل یوم حلاوة وان قال قولًا فالذی قال صادق
(سیرت ابن اسحاق، ج ۲، ص ۱۵۹)

ترجمہ: ﴿۱﴾ وہ عظیم المرتب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں کہ ہر پڑھنے والا اس کا عاشق ہو جائے۔

﴿۲﴾ وہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان پر ہر روز حلاوت و تازگی ہے اور اگر کوئی بات کہیں تو یقیناً وہ سچی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم

فامسی رسول اللہ قد عز نصره
و کان رسول اللہ ارسل بالعدل
فجاء بفرقان من اللہ منزل
مبینة آیاتہ لذوی العقل
فآ من اقوام بذاك ایقناوا
فامسوا بحمد اللہ مجتمعی الشمل
وانکر اقوام فراقت قلوبهم فزادهم ذوالعرش خبلا على خبل
(السیرۃ النبویۃ لابن هشام، ماقیل من الشعروفی یوم بدرا، ج ۳، ص ۱۲)

- ترجمہ:**
- ﴿١﴾ یوم بدرا رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوب تائید و نصرت ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نازل کردہ فرقان حمید لیکر آئے جس کی آیات ارباب داش کیلئے روشن و واضح ہیں۔
 - ﴿٢﴾ وہ اللہ عزوجل کی طرف سے نازل کردہ فرقان حمید لیکر آئے جس کی آیات تو اس پر بہت سے لوگ ایمان لائے اور اس کا یقین کیا جس کی وجہ سے وہ محمد تعالیٰ مربوط و منظوم ہو گئے۔
 - ﴿٣﴾ اور کچھ لوگ اس سے منکر ہوئے تو ان کے دلوں میں بھی آگئی اور رب عرش عزوجل نے بھی ان کی تباہیوں میں اضافہ کر دیا۔

حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حمدت الله حين هدى فؤادى الى الاسلام والدين الحنيف
لدين جاء من رب عزيز خير بالعباد بهم لطيف
اذا تليت رسائله علينا تحدى دمع ذى اللب الحصيف
واحمد مصطفى فيما مطاع فلا تغشوه بالقول العنيف

فلا والله نسلمه لقوم ولما نقض فيهم بالسيوف

(سیرت ابن اسحاق، ج ۲، ص ۱۵۳)

ترجمہ: ۱) میں نے خدا عن جل کی حمد کی جب اس نے اسلام اور دین حنف کی راہ کھائی۔

۲) وہ دین جو بندوں پر لطف فرمائے والے اور انکی خبر کھنے والے رب عزیز کا ہے۔

۳) جب اس کے پیغام ہمیں سنائے گئے تو دوران لیش و عقل والوں کے آنسو روں وال ہو گئے۔

۴) احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان فرمانزروں ہیں تو ان کے حضور سخن کلامی سے نہ پیش آؤ۔

۵) خدا عن جل کی قسم! ہم انھیں مخالفین کے سپرد نہیں کریں گے ابھی تو ہم نے انکے درمیان تلواروں کا فیصلہ بھی جاری نہ کیا۔

حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

واحسن منك لم ترقط عيني و اجمل منك لم تلد النساء
خلقت مبراً من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء

ترجمہ: ۱) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین نہ کھی میری آنکھوں نے دیکھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا۔

۲) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہوئی۔

وشق له من اسمه کی یحله فذو العرش محمود و هذا محمد

نبی اانا بعد یاس و فترة من الرسل وال اوثان فى الارض تعبد

فَامْسَى سَرَاجًاً مَسْتَبِيرًاً وَهَادِيَا
يَلْوَحُ كَمَا لَاحَ الصَّقِيلُ الْمَهْنَدُ
وَانْذَرَنَا نَارًا وَبَشَرَ جَنَّةَ
وَعَلَمْنَا إِلَاسْلَامَ فَاللَّهُ نَحْمَدُ

ترجمہ: ۱) اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احلاں واکرام کے لئے اپنے نام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مشتق کیا تو رب عرش عزوجل محمود ہے اور یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

۲) یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی نامیدی اور رسولوں علیہم السلام کے ایک طویل وقفہ کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ زمین پر بتوں کی پرسش ہو رہی تھی۔

۳) تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روشن چراغ اور ہادی و رہبر بن کراس طرح چمک جیسے صیقل کر دہندی تلوار چمکتی ہے۔

۴) ہمیں جہنم کا ڈر سنایا اور جنت کی بشارت دی اور ہمیں اسلام کی تعلیم دی تو ہم خدا عزوجل ہی کی حمد بیان کرتے ہیں۔

وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءِ
هَجُوتُ مُحَمَّدًا وَاجْبَتْ عَنْهُ
أَتَهْجُوهُ وَلَسْتُ لَهُ بِكُفَءٍ
فَشَرُّ كُمَالِ الْخَيْرِ كَمَا الْفَدَاءِ

أَمِينُ اللَّهِ شَيْمَتْهُ الْوَفَاءُ
هَجُوتُ مُبَارَكًا بِرَا حَنِيفَا
أَمْنَ يَهْجُو رَسُولُ اللَّهِ مِنْكُمْ
وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءَ

فَانَّ أَبِي وَوَالَّدَهُ وَعَرَضَى
لِعَرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءَ
(السیرة النبوية لابن هشام، شعر حسان في فتح مكة، ج ۴، ص ۳۵۹)

ترجمہ: ۱) تو نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجوکی تو میں نے ان کی طرف سے تمہیں جواب دیا اور خدا عزوجل کے یہاں اس میں اجر و ثواب ہے۔

﴿٢﴾ تو ان کی بھجوکرتا ہے جبکہ تو ان کے برابر نہیں تم میں کا برا (یعنی تو) بھلے پر (یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر) قربان ہو۔

﴿٣﴾ تو نے ایسے کو برا کہا جو مبارک، پاک باز، حنیف، خدا عزوجل کے امین ہیں جنکی خصلت و فداری ہے۔

﴿٤﴾ کیا تم میں کا جو رسول خدا عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھجوکرے اور جو انی مدد و ستائش اور ان کی حمایت کرے دونوں برابر ہیں؟

﴿٥﴾ میرے باپ دادا، میری عزت و آبر و محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت کے لئے ڈھال ہے۔

و هل عدلت يوم رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد
فبوركت يا قبر الرسول و بوركت بلاد ثوى فيه الرشيد المسدد

وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد
وليس هو اي نازعا عن ثنائه لعلى به فى جنة الخلد اخلد

مع المصطفى ارجو بذلك جواره وفي نيل ذلك اليوم اسعى و اجهد
(السيرة البنوية لابن هشام، شعر حسان بن ثابت في مرثيته، ج ٤، ص ٥٥٩ - ٥٦١)

ترجمہ: ﴿۱﴾ کیا کسی مرنے والے کی مصیبت کا دن اس دن کے برابر ہے جسمیں
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا۔

﴿۲﴾ تجھے مبارکباد ہے اے قبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اور اس شہر کو بھی جس میں
ہدایت و درستی والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسودہ خاک ہیں۔

﴿۳﴾ نہ زمانہ ماضی والوں کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے (عظیم وجلیل) کی وفات کا

صد مہہ ہوانہ قیامت تک کسی کو ایسا صدمہ ہو گا۔

﴿۲﴾ میرا دل انکی نعمت سے باز رہنے والا نہیں شاید اسی کے صدقے مجھے جنت الخلد میں دوام نصیب ہو۔

﴿۵﴾ اسی کے سبب تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا امیدوار ہوں اور وہی دن پانے کے لئے میں کوشش و محنت کر رہا ہوں۔

حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

روحی الفداء لمن اخلاقہ شهدت	بانہ خیر مولود من البشر
عم البریة ضوء الشمس و القمر	عمت فضائلہ کل العباد کما
انی تفرستت فیک الخیر اعرفة	والله یعلم عن ما خاننی البصر
انت النبی فمن یحرم شفاعته	یوم الحساب فقد ازرسی به القدر
فثبت اللہ ماتاک من حسن	تبییت موسیٰ و نصراللہی نصر

(وسیلة الاسلام، ج ۱، ص ۸۷۔ الطیقات الکبریٰ لابن سعد، ج ۳، ص ۴۰۰)

ترجمہ: ﴿۱﴾ میری روح اس پر قربان جس کے اخلاق اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ خیر البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

﴿۲﴾ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات سارے بندوں پر عام ہیں جیسے آفتاب و ماہتاب کی روشنی ساری مخلوق کو عام ہے۔

﴿۳﴾ میں نے غور کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھلائی دیکھ لی جسے میں پہچانتا ہوں اور خدا عزوجل جانتا ہے کہ میری آنکھوں نے مجھ سے خیانت نہیں کی۔

﴿۴﴾ آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو شخص بروز قیامت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

کی شفاعت سے محروم ہوا اسے قسمت نے ذلیل و رسوا کر دیا۔

﴿۵﴾ اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھلائی دی اسے قائم رکھے جیسے موئی علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے جیسے ان کی مدد ہوئی۔

حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نبیت ان رسول الله اوعدنى والغفو عند رسول الله مأمول
فقد ايت رسول الله معتذرا والغذر عند رسول الله مقبول
ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سیوف الله مسلول

(السیرۃ النبویة لابن ہشام، امر کعب بن زہیر، ج ۴، ص ۴۳۳، ۴۳۵)

ترجمہ: ۱﴿﴾ مجھے خبر دی گئی کہ رسول خدا عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے قتل کی وعید فرمائی ہے۔ اور رسول خدا عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں تو (مجھے) عفو و درگز رکی ہی امید ہے۔

﴿۲﴾ تو میں رسول خدا عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں معذرت کے ساتھ حاضر ہو گیا ہوں اور معذرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔

﴿۳﴾ میشک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور وہ خدا عزوجل کی تواروں میں سے ایک بے نیام ہندی توار ہیں۔

حضرت عباس بن مردار س رضی اللہ تعالیٰ عنہ

يا خاتم النباء انك مرسل بالحق كل هدى السبيل هدا كا
ان الاله بنى عليك محبة فى خلقه و محمدما سما كا

(السیرۃ النبویة لابن ہشام، غزوہ حنین فی سنۃ ثمان بعد الفتح، شعر اختر لعباس بن مردار، ج ۴، ص ۳۹۰)

ترجمہ: ۱) اے خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ راہ حق کی ہدایت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہدایت ہے۔
 ۲) اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنی مخلوق میں محبت کی بنیاد رکھی اور آپ کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔

حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ما ان رأيْتُ وَلَا سمعْتُ بِمُثْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ بِمُثْلِ مُحَمَّدٍ
 اوْفِي وَاعْطِي لِلْجَزِيلِ إِذَا اجْتَدَى وَمَتِي تَشَاءُ يَخْبُرُكَ عَمَّا فِي غَدِ
 (المقتفی فی سیرت المصطفی، ج ۱، ص ۲۱۴)

ترجمہ: ۱) سارے انسانوں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا کسی کو نہ دیکھا اور نہ سن۔
 ۲) جب ان سے مانگا جائے تو خوب دینے والے ہیں اور تم جب چاہو وہ تمھیں آئندہ کی خبر دے دیں۔

حضرت ابوسفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ

لَقَدْ عَظَمْتَ مَصِيبَتَنَا وَجَلَّتْ عَشِيهَةَ قَيْلَ قَدْ قَبْضَ الرَّسُولُ
 فَقَدْ نَالَ الْوَحْىُ وَالتَّنْزِيلُ فِيَنا يَرُوحُ بِهِ وَيَغْدُو جَبَرِيلُ
 نَبِىٌّ كَانَ يَحْلُو الشَّكُّ عَنْهُ بِمَا يَوْحِى إِلَيْهِ وَمَا يَقُولُ
 وَيَهْدِيْنَا فَلَانَخْشِي ضَلَالًاً عَلَيْنَا وَالرَّسُولُ لَنَا دَلِيلٌ
 أَفَاطَمْ! أَنْ جَزَعْتَ فَذَاكَ عَذْرٌ وَإِنْ لَمْ تَجْزَعْ ذَاكَ السَّبِيلُ
 فَقَبْرُ ابِيكَ سَيِّدَ كُلِّ قَبْرٍ وَفِيهِ سَيِّدُ النَّاسِ الرَّسُولُ

(روض الانف مع سیرت ابن هشام (مترجم)، ج ۴، ص ۶۸۱)

ترجمہ: ۱) اس شام ہم پر بڑی مصیبت آئی جب کہا گیا کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔

۲) وحی و تنزیل جسے جرمیل علیہ السلام صحیح و شام لاتے تھے ہم اس سے محروم ہو گئے۔

۳) وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدا عزوجل کی وحی اور اپنے اقوال کے ذریعے ہمارے مشکوک دور فرماتے تھے۔

۴) اور ہماری رہبری کرتے تھے تو ہمیں اپنے اوپر گرامی کا خوف نہ ہوتا جب کہ خود رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رہبر و رہنماء ہیں۔

۵) اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا! آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رومیں تو معذور ہیں اور نہ رومیں تو یہ بھی بہتر رہا ہے۔

۶) آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہر قبر کی سردار ہے اور اس میں تمام لوگوں کے سردار رسول باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائیں۔

اعرابی

يَا خَيْرُ مَنْ دَفَنَتْ بِالقَاعِ اعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طَيِّبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكْمَ

نَفْسِي الْفَدَاءِ بِقَبْرِ اَنْتَ سَاكِنَهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

ترجمہ: ۱) اے سب سے بہتر ان میں جن کی ہڈیاں زمین میں دفن ہوئیں تو انکی خوشبو سے چٹیل میدان اور ٹیلے خوشبو دار ہو گئے اور مہک اٹھے۔

۲) میری جان قربان ہواں قبر پر جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائیں کہ اسی میں عفت و پاک دامنی اور جود و کرم ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

فلو سمعوا فی مصر او صاف خدھ لما بذلوا فی سوم یوسف من نقد
لواحی زلیخا لورائیں جبینه لاثرن بالقطع القلوب علی الایدی
(شرح العالمة الزرقانی، عائشة ام المؤمنین، ج ۴، ص ۳۹۰)

ترجمہ: ۱) ﴿اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک کے اوصاف اہل مصر ن پاتے تو جناب یوسف علیہ السلام کی قیمت لگانے میں سیم وزرنہ بہاتے۔
۲) ﴿اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جبین انور دیکھ پاتیں تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتیں۔

حضرت فاطمہ زہرا عرضی اللہ تعالیٰ عنہا

ما ذا علیٰ من شم تربة احمد ان لا يشم مدى الزمان غوا الیا
صبت على مصائب لو انهما صبت على الايام صرن لیا لیا
(الوفا باحوال المصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم (مترجم)، باب ۴، بعد ازو صال
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کیفیت، ص ۸۳۱)

ترجمہ: ۱) ﴿جس نے قبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاک سونگھ لی اگر وہ زمانے
بھر گرائیں قیمت عطروں اور خوشبوؤں کو نہ سو نگھے تو کوئی نقصان کی بات نہیں (یعنی اسے
وہی خوشبو کافی ہے اور کسی خوشبو کی اب اسے کوئی ضرورت نہیں۔)
۲) ﴿مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹے کہ اگر وہ دنوں پر ٹوٹے تو وہ راتیں بن جاتے۔

حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا

الا یار رسول الله کنت رجاء نا و کنت بنا براؤ لم تک جافیا
 و کنت رحیما هادیا و معلما لیبک علیک الیوم من کان با کیا
 فدی لرسول الله امی و خالتی و عسمی و آبائی و نفسی و مالیاً
 (حجۃ اللہ علی العلمین، قسم الرابع، الباب الاول، ص ۵۱)

- ترجمہ:** ۱) یار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری
 امید اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے بدسلوکی والے نہ تھے۔
 ۲) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مہربان، راہنماء اور معلم تھے، رونے والے کو چاہیے
 کہ آج آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر روئے۔
 ۳) میری ماں، میری خالہ، میرے پچھا، میرے آباء و اجداد، میری جان و مال سب
 کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔
- بہناتِ مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم**

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
 وجب الشكر علينا ما دعا الله داع
 ايها المبعوث فيما جئت بالامر المطاع

(الوفاء الوفا، الفصل الحادی عشر، ج ۱، ص ۲۶۲)

- ترجمہ:** ۱) وداع کی گھاٹیوں سے بدر کامل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طلوع ہوا۔
 ۲) ہم پر شکر بجالا نا واجب ہوا جب تک خدا عزوجل کے لئے کوئی دعوت دینے والا
 دعوت دیتا رہے۔
 ۳) اے ہمارے درمیان مبعوث ہونے والے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ حکم لیکر
 تشریف لائے جس کی اطاعت کی جائے۔

مأخذ و مراجع

نمبر شار	نام کتاب	مطبوع
۱	التفسیر الكبير	دار احياء التراث العربي بيروت
۲	الدر المنشور	دار الفكر بيروت
۳	صحیح البخاری	دار الكتب العلمية بيروت
۴	صحیح مسلم	دار ابن حزم بيروت
۵	سنن ابی داود	دار احياء التراث العربي بيروت
۶	سنن الترمذی	دار الفكر بيروت
۷	سنن النسائی	دار الجیل بيروت
۸	سنن ابن ماجه	دار المعرفة بيروت
۹	المستند للإمام احمد بن حنبل	دار الفكر بيروت
۱۰	المؤطلا للإمام مالك	دار المعرفة بيروت
۱۱	مشکاة المصایح	دار الفكر بيروت
۱۲	حلیة الاولیاء	دار الكتب العلمية بيروت
۱۳	فتح الباری شرح صحیح البخاری	دار الكتب العلمية بيروت
۱۴	اشعة اللمعات شرح مشکاة المصایح	المکتبة الرشیدیة کوئٹہ
۱۵	شرح العلامۃ الزرقانی علی المواہب	دار الكتب العلمیة الزرقانی
۱۶	الوفا باحوال المصطفی	حامد اینڈ کمپنی لاہور
۱۷	شواهد النبوة (فارسی)	مکتبۃ الحقيقة ترکی
۱۸	السیرة السبیویة لابن هشام	دار المعرفة بيروت

١٩	الطبقات الكبرى لابن سعد	دار الكتب العلمية بيروت
٢٠	الاستيعاب في معرفة الصحابة	دار الكتب العلمية بيروت
٢١	الاصابة في تمييز الصحابة	دار الكتب العلمية بيروت
٢٢	اسد الغابة	دار احياء التراث العربي بيروت
٢٣	الخصائص الكبرى	دار الكتب العلمية بيروت
٢٤	وفاء الوفا باخبار دار المصطفى	دار احياء التراث العربي بيروت
٢٥	مدارج النبوة	دار الكتب العلمية بيروت
٢٦	روض الانف (مترجم)	ضياء القرآن لاہور
٢٧	الموهاب اللدنية للقسطلاني	مركز اهلست بركات رضا
٢٨	دلائل النبوة لابي نعيم (مترجم)	ضياء القرآن لاہور
٢٩	الادب المفرد	دار الحديث ملتان
٣٠	شرح الشفاء مع شرحه للملا على القاري	دار الكتب العلمية بيروت
٣١	المقتفي في سيرة المصطفى	دار الحديث قاهره
٣٢	سيرت ابن اسحاق	معهد الدراسات والابحاث للتعریف بيروت
٣٣	وسيلة الاسلام	دار العرب اسلامي بيروت

مجلس المدینۃ العلمیہ کی طرف سے پیش کردہ قابل مطالعہ کتب

(شعبہ کتب اعلیٰ حضرت رحمة الله تعالى علیہ)

(۱) کرنٹی نوٹ کے مسائل: یہ کتاب (کفُلُ الْفَقِيْهُ الْفَاهِمُ فِي اَحْکَامِ قُرْطَاسِ الدَّرَاهِمْ) کی تسهیل و تخریج پر مشتمل ہے۔ جس میں نوٹ کے تبادلے اور اس سے متعلق شرعی احکامات بیان کئے گئے ہیں۔ (کل صفحات: 199)

(۲) ولایت کا آسان راستہ (تصویر شیخ): یہ رسالہ (الْيَاوْنَةُ الْوَاسِطَةُ) کی تسهیل و تخریج پر مشتمل ہے۔ جس میں پیر و مرشد کے تصور کے موضوع پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ (کل صفحات: 60)

(۳) ایمان کی پہچان (حاشیہ تہبید ایمان): اس رسالے میں تہبید ایمان کے مشکل الفاظ کے معانی اور ضروری اصطلاحات کی مختصر تشریحات درج کی گئی ہیں۔ (کل صفحات: 74)

(۴) کامیابی کے چار اصول (حاشیہ و تخریج تدبیر فلاح و نجات و اصلاح) اس رسالے میں پورے عالم اسلام کے لیے چار نکات کی صورت میں معاشی حل پیش کیا گیا ہے۔ (کل صفحات: 41)

(۵) شریعت و طریقت: یہ رسالہ (مَقَالُ الْعُرَفِاءِ يَا عَزَّازِ شَرْعٍ وَعُلَمَاءِ) کا حاشیہ ہے۔ اس عظیم رسالے میں شریعت اور طریقت کو الگ الگ مانے والے جاہلیوں کی صحیح رہنمائی کی گئی ہے۔ (کل صفحات: 57)

(۶) ثبوت هلال کے طریقے (طُرُقِ إِثْبَاتِ هِلَالٍ): اس رسالے میں چاند کے ثبوت کے لئے مقرر شرعی اصول و ضوابط کی تفصیلات کا بیان ہے۔ (کل صفحات: 63)

(۷) عورتیں اور مزارات کی حاضری: یہ رسالہ (جُمُلُ النُّورِ فِي نَهْيِ النِّسَاءِ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ) کا حاشیہ ہے۔ اس رسالے میں عورتوں کے زیارت قبور کے لئے نکلنے سے متعلق شرعی حکم پر وارد ہونے والے اعتراضات کے مسکت جوابات شامل ہیں۔ (کل صفحات: 35)

(۸) اعلیٰ حضرت سے سوال جواب (إِظْهَارُ الْحَقِّ الْجَلِيْ): اس رسالے

میں امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرَّحْمَنِ پر بعض غیر مقلدین کی طرف سے کئے گئے چند سوالات کے مدلل جوابات بصورت انٹر ویورج کئے گئے ہیں۔ (کل صفحات: 100)

(۹) عِيدِيْنِ میں گائے ملنَا کیسَا؟ یہ رسالہ (وَشَاهُ الْجِيْدِ فِي تَحْلِيلِ مُعَانَقَةِ الْعِيدِ) کی تسہیل و تخریج پر مشتمل ہے۔ اس رسالے میں عیدین میں گلے ملنے کو بدعت کہنے والوں کے رد میں دلائل سے مزین تفصیلی فتوی شامل ہے۔ (کل صفحات: 55)

(۱۰) راہ خدا عزوجل میں خروج کرنے کے فضائل: یہ رسالہ (رَأْدُ الْقَحْطِ وَالْمُوْبَاءِ بِدَعْوَةِ الْجِيْرَانِ وَمُوَاسَأَةِ الْفُقَرَاءِ) کی تسہیل و تخریج پر مشتمل ہے۔ یہ رسالہ پڑوسیوں اور فقراء سے خیرخواہی اور وباء کوٹا لئے کیے صدقہ کے نسائل پر مشتمل احادیث و حکایات کا بہترین مجموعہ ہے۔ (کل صفحات: 40)

(۱۱) والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق: یہ رسالہ (الْحُقُوقُ لِطَرْحِ الْعُقوُقِ) کی تسہیل و حاشیہ اور تخریج پر مشتمل ہے، اس میں والدین، اساتذہ کرام، احترام مسلم اور دیگر حقوق کا تفصیلی بیان ہے۔ (کل صفحات: 135)

(۱۲) دعاء کے فضائل: یہ رسالہ (أَحَسْنُ الْوِعَاءِ لِادَابِ الدُّعَاءِ مَعَهُ ذِيْلُ الْمُدْعَا لَا حُسْنُ الْوِعَاءِ) کی حاشیہ و تسہیل اور تخریج پر مشتمل ہے، جس میں دعاء سے متعلق تفصیلی احکام کا بیان ہے اور ہر ہر موضوع پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ (کل صفحات: 140)

شائع ہونے والی عربی کتب:

از امام اہل سنت مجددین و ملت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرَّحْمَنِ

(۱) **کَفْلُ الْفَقِيْهِ الْفَاهِمُ** (کل صفحات: 74). (۲) **تَمْهِيدُ الْإِيمَان** . (کل صفحات: 77) (۳) **الْأَجَارَاتُ الْمَتَبَيْنَةُ** (کل صفحات: 62). (۴) **إِقَامَةُ الْقِيَامَةِ** (کل صفحات: 60) (۵) **الْفَضْلُ الْمُوْهِبِيُّ** (کل صفحات: 46) (۶) **أَجَلَى الْإِعْلَامِ** (کل صفحات: 70) (۷) **الْرَّزْمَرْمَةُ الْقَمَرِيَّةُ** (کل صفحات: 93) (۸) **جَدُ الْمُمْتَارُ عَلَى رَدِ الْمُحتَارِ.** (کل صفحات: 570)

شعبہ اصلاحی کتب

(۱) خوف خدا عزوجل: اس کتاب میں خوفِ خدا عزوجل سے متعلق کثیر آیات کریمہ، احادیث مبارکہ اور بزرگانِ دین کے اقوال و احوال کے بکھرے ہوئے متواتر موتیوں کو سلک تحریر میں پروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ (کل صفحات: 160)

(۲) انفرادی کوشش: اس کتاب میں نیکی کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کے لئے انفرادی کوشش کی ضرورت، اس کی اہمیت، اس کے فضائل اور انفرادی کوشش کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ (کل صفحات: 200)

(۳) فکرِ مدینہ: اس کتاب میں فکرِ مدینہ (یعنی محابی) کی ضرورت، اس کی اہمیت، اس کے فوائد اور بزرگانِ دین کی فکرِ مدینہ کے "131" واقعات کو جمع کیا گیا ہے نیز مختلف موضوعات پر فکرِ مدینہ کرنے کا عملی طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ (کل صفحات: 164)

(۴) امتحان کی تیاری کیسے کریں؟: اس رسالے میں ان تمام مسائل کا حل بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو عموماً ایک طالب علم کو امتحانات کی تیاری کے دوران درپیش ہو سکتے ہیں۔ (کل صفحات: 132)

(۵) نماز میں لقمہ کے مسائل: نماز میں لقدمہ دینے یا لینے کے مسائل پر مشتمل ایک کتاب جس میں مختلف صورتوں کا حکم اکابرین رحمہم اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے ایک جگہ جمع کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ (کل صفحات: 39)

(۶) جنت کی دوچابیاں: زبان و شرم گاہ کی حفاظت سے متعلق امور پر مشتمل ہے۔ (کل صفحات: 152)

(۷) کامیاب استاذ کون؟: اس کتاب میں ان تمام امور کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کا تعلق تدریس سے ہو سکتا ہے مثلاً سبق کی تیاری، سبق پڑھانے کا طریقہ، سننے کا طریقہ علی حد القياس۔ (کل صفحات: 43)

(۸) نصابِ مدنی قافلہ: اس کتاب میں مدنی قافلہ سے متعلق امور کا بیان ہے، مثلاً

مدنی قافلہ کی اہمیت، مدنی قافلہ کیسے تیار کیا جائے، مدنی قافلہ کا جدول، اس جدول پر عمل کس طرح کیا جائے، امیر قافلہ کیسا ہوں چاہیے؟ اپنے موضوع کے اعتبار سے منفرد کتاب ہے۔ (کل صفحات: 196)

(۹) فیضان احیاء العلوم : یہ کتاب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مایہ ناز کتاب ”احیاء علوم الدین“ کی تخریص و تسهیل ہے جسے درس دینے کے انداز میں مرتب کیا گیا ہے۔ اخلاص، مذمت دنیا، توکل، صبر جیسے مضامین پر مشتمل ہے۔ (کل صفحات: 325)

(۱۰) حق و باطل کا فرق : یہ کتاب حافظ ملت عبدالعزیز مبارکپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تالیف (المصباح الجدید) ہے جسے ”حق و باطل کا فرق“ کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔

مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عقائد حق و باطل کے فرق کو نہایت آسان انداز میں سوالاً جواباً پیش کیا ہے جس کی وجہ سے کم تعلیم یافتہ لوگ بھی اس کا آسانی سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ (کل صفحات: 50)

(۱۱) تحقیقات : یہ کتاب فقیہ اعظم ہند، مفتی شریف الحقی احمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تالیف ہے، تحقیق انداز میں لکھی گئی اس کتاب میں بدمجہوں کی طرف سے وارد ہونے والے اعتراضات کے تسلی بخش جوابات دیئے گئے ہیں۔ متلاشیان حق کے لئے نور کا مینارہ ہے۔ (کل صفحات: 142)

(۱۲) اربعین حنفیہ : یہ کتاب فقیہ اعظم حضرت علام ابو یوسف محمد شریف نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تالیف ہے۔ جس میں نماز سے متعلق چالیس احادیث کو جمع کیا گیا ہے اور اختلافی مسائل میں حنفی مذہب کی تقویت نہیں مدل انداز میں بیان کی گئی ہے۔ (کل صفحات: 112)

(۱۳) طلاق کے آسان مسائل : اس فقیہ کتاب میں مسائل طلاق کو عامہنماں انداز میں پیش کیا گیا ہے جس کی بناء پر طلاق سے متعلق عوام الناس میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا کافی حد تک ازالہ ہو سکتا ہے۔ (کل صفحات: 30)

(۱۴) توبہ کی روایات و حکایات : توبہ کی اہمیت و فضائل اور توبہ کرنے والوں کی حکایات پر مشتمل کتاب ہے۔ (کل صفحات: 124)

(۱۵) آداب مرشدِ کامل (مکمل پاٹھ حصے) : مرشدِ کامل کے آداب سمجھنے کیلئے ”آداب مرشدِ کامل“ کے مکمل پاٹھ حصوں پر مشتمل اس کتاب میں شریعت و طریقت سے

- متعلق ضروری معلومات پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ (کل صفحات: تقریباً 200)
- (۱۶) **کامیاب طالب علم کیسے بننیں ؟** : اس کتاب میں علم کے فضائل، طلب علم کی نیتوں، اسباق کی پیشگی تیاری اور ترجیح میں مہارت حاصل کرنے کا طریقہ، کامیاب طالب العلم کون؟ وغیرہ م موضوعات کا بیان ہے۔ (کل صفحات: تقریباً 63)
- (۱۷) **ڈی وی اور مُووی** : اس رسالے میں ڈی اور مُووی کے ناجائز استعمال کی تباہ کاریوں اور جائز استعمال کی مختلف صورتوں اور فی زمانہ اس کی ضرورت کا بیان ہے۔ (کل صفحات: 32)
- (۱۸) **فتاویٰ اہل سنت** : اس سلسلے میں سات حصے شائع ہو چکے ہیں۔
- (۱۹) **مفتوہ دعوتِ اسلامی** : دعوتِ اسلامی کی مرکزی مجلس شوریٰ کے رکن مفتی محمد فاروق العطاری المدنی علیہ رحمۃ اللہ اغتنی کے حالاتِ زندگی پر مشتمل تالیف ہے۔
- (۲۰) **تنگ دستی کے اسباب** : اس رسالے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں تنگستی کے اسباب اور آخر میں ان کا حل بھی پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ (کل صفحات: 33)
- (۲۱) **عطاری جن کا غسل میت** : جنات سے متعلق معلومات پر مشتمل محقر رسالہ ہے۔ (کل صفحات: 24)
- (۲۲) **غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات** : حضور سیدنا شیخ عبدالقدار جیلانی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی سیرت مبارکہ اور دلچسپ حکایات پر مشتمل کتاب ہے۔ (کل صفحات: 106)
- (۲۳) **قبر کھل گئی** : اس کتاب میں مذہب اسلام کی حقانیت پر منی، عاشقان رسول کی قبریں کھلنے کے ایمان افروز واقعات ہیں۔ (کل صفحات: 48)
- (۲۴) **قبرستان کی چڑیل** : اس رسالے میں بھی جنات کے حوالے سے معلومات ہیں۔ (کل صفحات: 24)
- (۲۵) **دعوتِ اسلامی کی جیل خانہ جات میں خدمات** : اس رسالے میں مجلس فیضانِ قرآن کا تعارف اور جمل خانہ جات میں پیش آنے والی مدینی یہاںوں کا تذکرہ ہے۔ (کل صفحات: 24)

شَعْبَهُ تَرَاجِمُ كِتَابٍ

(۱) **شَاهِرَةُ الْوَلِيَّاَءِ**: یہ رسالہ سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف "مِنْهَاجُ الْعَارِفِینَ" کا ترجمہ و تسلیم ہے۔ اس رسالے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف موضوعات کے تحت منفرد انداز میں غور و فکر یعنی "فَكِيرِ مَدِينَةٍ" کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ (کل صفحات: 36)

(۲) **حَسْنُ اخْلَاقِ**: یہ کتاب دنیاۓ اسلام کے عظیم محدث سیدنا امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاہکار تالیف "مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ" کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اخلاق کے مختلف شعبوں کے متعلق احادیث جمع کی ہیں۔ (کل صفحات: 74)

(۳) **الْدَّاعِفَةُ إِلَى الْفَكْرِ** (عربی): یہ کتاب "دَعْوتُ فَكْرٌ" کا عربی ترجمہ ہے جس میں بدمہ ہبھوں کو اپنی راؤش پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ (کل صفحات: 148)

(۴) **رَاهُ عِلْمِ**: یہ رسالہ "تَعْلِيمُ الْمُتَعَلِّمِ طَرِيقُ التَّعْلُمِ" کا ترجمہ و تسلیم ہے جس میں ان امور کا بیان ہے جن کی رعایت راہ علم پر چلنے والے کے لئے ضروری ہے۔ اور ان بالتوں کا ذکر ہے جن سے اجتناب معلم و متعلم کے لئے ضروری ہے۔ (کل صفحات: 102)

(۵) **بَيْثَةُ كَوْنِسِيْت**: یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب "إِيَّاهَا الْوَلَدُ" کا اردو ترجمہ ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے لا جواب کتاب ہے اس میں اخلاص، ندمت مال اور توکل جیسے مضامین شامل ہیں۔ (کل صفحات: 64)

(۶) **جَنَّتُ مَيْنَ لَيْ جَانَے وَالِّيْ اعْمَالِ**: یہ حافظ محمد شرف الدین عبد المؤمن بن خلف و میاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تالیف "الْمُتَسْجِرُ الرَّابِعُ فِي ثَوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ" کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں مختلف نیک اعمال مثلاً حصول علم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر صدقات، تلاوت قرآن، صبر، حسن اخلاق، توبہ، خوف خدا عز و جل اور درود پاک کے ثواب کے بارے میں دو ہزار 2000 سے زائد احادیث موجود ہیں۔ (تقریباً 1100 صفحات)

﴿شَعْبَهُ دَرْسِيٍّ كَتَب﴾

(۱) **تعریفاتِ نحویہ:** اس رسالہ میں علم خوکی مشہور اصطلاحات کی تعریفات مع امثال و توضیحات جمع کردی گئی ہیں۔ (کل صفحات: 45)

(۲) **کتاب العقائد:** صدر الافق افضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیکی تصنیف کردہ اس کتاب میں اسلامی عقائد اور حدیث پاک کی روشنی میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے تمیں جھوٹے مدعیان نبوت (کذابوں) میں سے چند کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ کتاب کئی مدارس کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ (کل صفحات: 64)

(۳) **نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر:** یہ کتاب فنِ اصول حدیث میں لکھی گئی امام حافظ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیکی بے مثال تالیف "نُخْبَةُ الْفُكْرِ فِي مُضْطَلِّعِ الْأَثَرِ" کی عربی شرح ہے۔ اس شرح میں قوت و ضعف کے اعتبار سے حدیث کی اقسام، ان کے درجات اور محمد شیں کی استعمال کردہ اصطلاحات کی وضاحت درج کی گئی ہے۔ طلبہ کے لئے انتہائی مفید ہے۔ (کل صفحات: 175)

(۴) **ابیعین النوویہ** (عربی): علامہ شرف الدین ابوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیکی تالیف جو کہ کثیر مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کو خوبصورت انداز میں شائع کیا گیا ہے۔ (کل صفحات: 121)

(۵) **نصاب التجوید:** اس کتاب میں درست خارج سے حروف قرآنی کی ادائیگی کی معرفت کا بیان ہے۔ مدارس دینیہ کے طلبہ کے لئے بہمفید ہے۔ (کل صفحات: 79)

(۶) **گلد سنه عقائد و اعمال:** اس کتاب میں ارکان اسلام کی وضاحت بیان کی گئی ہے۔ (کل صفحات: 180)

﴿شَعْبَهُ تَخْرِيج﴾

(۱) **عجائب القرآن مع غرائب القرآن:** اس کتاب کی جدید کمپوزنگ، پرانے نسخے مطابقت اور نہایت اختیاط سے پروف ریٹنگ کی گئی ہے۔ حوالہ جات کی تخریج بھی کی گئی ہے۔ (کل صفحات: 422)

(۲) **جنتی زیور:** یہ کتاب اسلامی مسائل و خصائص کا ایک بہترین مجموعہ ہے، اس میں زندگی گزارنے

سے متعلق تقریباً تمام ہی شعبوں کا تذکرہ ہے، خواہ عقادات کا بیان ہو یا عبادات کا، معاملات ہوں یا اخلاقیات تقریباً بھی کو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آسان پیرایہ میں اپنی کتاب میں ذکر کر دیا ہے۔ (صفحت: 679)

(۵، ۴، ۳) **بھار شریعت** : فقہی کی عالم بنانے والی کتاب ”بھار شریعت“ جو عقائدِ اسلامیہ اور ان سے متعلق مسائل پر مشتمل ہے۔ تمام حوالہ جات کی حتی المقدور تحریک کرنے کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معانی بھی حاشیے میں لکھ دیئے گئے ہیں۔ اس کے اب تک (۴) حصے شائع ہو چکے ہیں، بقیہ پر کام جاری ہے۔

(۶) **اسلامی زندگی** : اس کتاب میں ان رسومات کا بیان ہے جو عمومی فرق کے ساتھ پاک و ہند میں رائج ہیں۔ اس کتاب کوئی کپوزنگ، بمبر پروف ریڈنگ، ضروری تسہیل و حوشی، دیگر نسخوں سے مقابلے، آیات قرآنی کے ترجیح و محتاط تطبیق اور تحریک، حوالہ جات کی تحریک، عربی و فارسی عبارات کی درتیگی اور پیرابندی وغیرہ، نیز مآخذ و مراجع کی فہرست کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين لاتبعد لا يغزو بالله من الشفاعة الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم

سنت کی بہاریں

الحمد لله رب العالمين تلخی قرآن و شہادت کی عاصی غیر سیاسی حریک و ہوت اسلامی کے نئے نئے مذہبی مذہبی ماحول میں بکثرت نشیشیں عیسیٰ اور سکھی جاتی ہیں، ہر ہزار مغرب کی آواز کے بعد آپ کے شہر میں ہونے والے ہوت اسلامی کے پختہ ارشتوں پھرے اجتماع میں رہنے والی کیلئے ایسی ایکسی نیتوں کے سماحت ساری رات گزارنے کی مدد فی الابغا ہے۔ عالمگیر رسول کے مذہبی قائلوں میں پیغمبیر وہاب شتوں کی ترتیب کیلئے سفر اور روزانہ ٹکر مدینہ کے ذریعے مذہبی اتحادات کا رسالہ کو کے ہر مذہبی ماہ کے ابتدائی دن و دن کے اندر اندر اپنے بیہاں کے ذمے وارکو ٹکن کروانے کا معمول ہا یجھے، ان شاء الله عزوجل اس کی بُراکت سے پابند سنت پیشہ ہٹانہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کیلئے گوئے کاؤں ہن بنے گا۔

ہر اسلامی بھائی اپنایہ ڈھن ہائے کہ ”مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔“ ان شاء الله عزوجل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے ”مذہبی اتحادات“ پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ”مذہبی قائلوں“ میں سفر کرتا ہے۔ ان شاء الله عزوجل

مکتبۃ المدینہ کی خاتمیں

- کتابیں: شعبہ کتابداری، فون: 061-5553765 - 021-322003111
- راپورٹی، فلٹ، راہ روکیل ہاؤس، فون: 061-5553765
- اکاؤنٹننگ: داکٹر ابرار اکاؤنٹننگ کمپنی، فون: 042-37311679
- پیٹ: لیکھان مدنی گلریز، فون: 041-2632625
- سروار، ایکٹر، ایکٹر، فون: 068-5571888
- کمپنی: پیٹ ٹیکسٹریز، فون: 0244-4362145 - MCB - فون: 058274-37212
- حیدر آباد: لیکھان مدنی، آنکھی ڈاون، فون: 0711-5619195
- مکان: لیکھان مدنی، سہی، ایکٹر، فون: 022-2620122
- گورنمنٹ: لیکھان مدنی، میرزا گورنمنٹ، فون: 061-4511192
- اکاؤنٹننگ: کامنی، ایکٹر، فون: 055-4225653
- گورنمنٹ: سرگودھا ایکٹر، فون: 044-2550767 - 044-6007128

مکتبۃ المدینہ فیضاں مدنیہ، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، ہباب المدینہ (کراچی)
فون: 021-34921389-93 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net